



YOUTH PARLIAMENT
YOUTH DEBATES

Thursday, June 21, 2012

The Youth Parliament met in the Best Western Hotel Hall Islamabad at thirty six minutes past nine in the morning with Mr. Presiding Officer (Mr. Muhammad Taimoor Shah) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

Item No. 2

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Presiding Officer: بسم الله الرحمن الرحيم This is a Calling Attention Notice of Mr. Tabraiz Marri to invite the attention of the Youth Minister for Law, Parliamentary Affairs and Human Rights to a matter of urgent public importance regarding the post 2011 flood situation in district Sanghar, Sindh where the internally displaced persons are still deprived of basic necessities such as clean drinking water, food and tents, causing grave concern among the people. Mr. Tabraiz Marri *Sahib*.

جناب تبریز مری: شکریہ جناب سپیکر! جیسا کہ آپ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہو گا کہ 2010 میں سیلاب آیا اور ضلع سانگھڑ بھی اس سے متاثر ہوا لیکن 2011 میں جو سیلاب آیا اس سے کافی زیادہ devastation ہوئی، approximately 10 million people were displaced all over Sindh but specifically if I talk about Sanghar District where approximately 1.5 million people were displaced internally. کچھ اس طرح کی تھی کہ when they were displaced, ان کے رہنے یا کھانے پینے کی سہولیات properly میسر نہیں تھیں۔ Initially یہ بات understandable تھی کیونکہ پندرہ لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ manage کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن what is the cause of concern at the moment is that almost nine months since rains internally displaced ہیں، ان کو نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے نہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے، District Sanghar actually، they are still living in tents. ایک ایسا علاقہ ہے which is very hot and goes around 48° to 50° during the summer. ان کا بغیر کسی سہولت کے ٹینٹ میں رہنا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ I would like to call the attention of the honourable Minister towards this and I would like to urge him to take appropriate action for those people. Thank you.

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جی وزیر صاحب۔

Mr. Umer Riaz (Minister for Law, Parliamentary Affairs and Human Rights): Thank you honourable Speaker. The Ministry of Law, Parliamentary Affairs and Human Rights wants to express its grave concern over the terrible condition of the internally displaced persons and we are committed that

Youth Parliament M/O Human Rights would do whatever it takes. We are planning to present the human rights policy statement in the coming sessions and we have specifically dealt with the problem of the refugees. We are specifically dealt with those who are migrating from Afghanistan and we have given special attention to those who are being internally displaced. We want to express grave concerns over the condition of the shortage of food, drinking water substances for all those internally displaced persons and we would certainly committed to draft a policy on that. We would also like to recommend the Standing Committee on Parliamentary Affairs and Human Rights to take this matter into consideration and take wise methods because the process which is processed through the Standing Committee is very obvious one and the Standing Committee can draft a policy, so that the internally displaced persons whenever the internal displacement take place does not damage to the economy of the country and the needs of the people are met accordingly. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Tabraiz *Sahib*! Is any query you want to ask from the Minister?

Mr. Tabraiz Marri: Sir, I am satisfied if the recommendations are made and final in that Standing Committee.

Mr. Presiding Officer: I think the Minister of Law, Parliamentary Affairs and Human Rights has shown his regard on this Calling Attention Notice. Next item of agenda is the policy statement of Mr. Ahmed Numair Farooq *Sahib*.

One Honourable Member: Sir, he is little bit late and he will attend the session after some time.

Item No. 4

RESOLUTION

Mr. Presiding Officer: Next item No. 4. I would like to continue from the yesterday's point of view.

اس پر سارے ممبران نے debate کر لی تھی اب صرف Leader of the Opposition and the Prime Minister کا point of view رہ گیا تھا۔ جی اپوزیشن لیڈر صاحب۔

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): شکر یہ جناب سپیکر! جیسا کہ resolution میں کہا گیا ہے کہ PIA and Pakistan Railways کی بہت pathetic condition ہے اور یہ national enterprises ہیں۔ حکومت کی prime responsibility ہے کہ یہ working conditions میں رہیں۔ اس پر سب نے باتیں کیں اور کئی چیزیں سامنے آئیں کہ ان اداروں میں downsizing کریں، ان اداروں میں over employment ہے۔ ہم نے اسٹیل ملز کے case میں بھی دیکھا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ since inception جب سے ہمیں ریلوے ملی تو پورے پاکستان میں اس کا ایک ہی track ہے۔ ریل گاڑی اگر کراچی سے باقی ملک کے لیے چلے گی تو اس کا صرف single track is available تو آپ downsizing کی طرف جائیں، آپ اس کا scope wide کر سکتے ہیں، آپ اسے two way traffic کے لیے expand کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ جو لوگ corruption کر رہے ہیں اور جو embezzlement ہو رہی ہے تو اس کے لیے ادارہ جاتی accountability courts موجود ہیں، ان میں ان لوگوں کے مقدمات لڑے جا سکتے ہیں اور culprits کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب اس پر اپنی opinion دیں اور you should put this resolution for voting۔ شکر یہ۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر: جی وزیر اعظم صاحب۔

جناب محمد ہاشم عظیم (وزیر اعظم یوتھ پارلیمنٹ): شکریہ جناب سپیکر! اس پر بہت زیادہ debate ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کے کافی اچھے solutions اور وجوہات آگئی ہیں۔ میرے نزدیک کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو میں اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس پر debate بھی ہو چکی ہے اور قائد حزب اختلاف نے بھی اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگر meritocracy کو فروغ دیا جائے گا، اگر right person for the right job اور جس طرح space نکلے، اس کو fill کرنے کے لیے اسی طرح کا آدمی اس position پر لگایا جائے اور ایک human resource mechanism جس کی مثال ہمیں انڈیا میں ملتی ہے کہ وہ پوری industry کا overall analysis کرتے ہیں، short analysis کرتے ہیں اور workforce کو segments میں distribute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں tenants کتنے چاہیے؟ Managers کتنے چاہیے؟ Technical officers کتنے چاہیے؟ وہ اس طرح fill up کرتے ہیں اور وہ government institutions کو آہستہ آہستہ evolve کرتے ہیں، انہیں emerge کرتے ہیں اور وہ دن بدن strong ہوتے ہیں۔ میں جناب کرماتی صاحب کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ when he was appointed as the CO of PSO and PIA, they grew rapidly لیکن جس طرح political loyalty کی بنیاد پر جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، ملک کو ان کی قربانیوں پر قربان کر دیتے ہیں، اس سے institutions develop نہیں ہوتے ان میں بلکہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہم اس میں downsizing کریں یا جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، اس کے لیے پہلے state owned consulting firms ہوں جو کہ financial analysis کریں، جو ratios ہیں، جو do form formula ہے، اس کے مطابق analysis کر کے اگر downsizing کرنی ہے یا آپ کو مستقبل میں جو بھی prospects اپنانے ہیں، یہ سب کچھ proper analysis کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک plan ہویم جس کے مطابق move کر سکیں۔ شکریہ۔

Mr. Presiding Officer: Thank you. Now I put the resolution to the House:

“This House is of the opinion that Railways and PIA are national assets, but due to negligence and corruption these institutes are at the verge of destruction. It’s important to do some emergency reforms for the betterment of these national assets. We need to identify the culprits & punish them.”

(The motion was carried)

Mr. Presiding Officer: The motion was carried unanimously. Now we move to item No. 5.

Item No. 5

RESOLUTION

Mr. Presiding Officer: Ms. Shaheera Jalil Albasit, Ms. Anum Mohsin, Ms. Anum Zia, Ms. Yusraa Faaruq, Ms. Seep Akhter Channer, Ms. Samman Ehsan, Ms. Elia Nauroz Ali, Ms. Sahar Iqbal, Ms. Rabiya Shamim, Ms. Elwina Rauf and Ms. Sarah Abdul Wadood would like to move the following resolution:

“This House is of the opinion that the use of model of ‘Baltistan Apricot Revolution’ to introduce measures to facilitate the Micro-Finance Business Ventures of women in small cities where Cottage Industry is more exploitable and encourage Private Companies and Investors to increase

women employment in the service sector of urban areas on the model of 'Qatar national Vision 2030'.

Mr. Presiding Officer: Ms. Shaheera.

Ms. Shahera Jalil Albasit: Thank you Mr. Speaker! First of all I would like to make a certain correction over here in the wording of this resolution,

this House is of the opinion that 'the government should use' we need to include these پہلی لائن میں ہے کہ two words 'government should' between 'the' and 'use'.

جناب سپیکر! اب میں اس resolution کے مقصد کو واضح کرنا چاہوں گی کہ اس resolution کا مقصد یہ ہے کہ آپ to increase employment opportunities کی overall تو بات کرتے ہیں but why not focus on women particularly? According to the labour force survey, we do share statistic at times statistic ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پوری civilian labour force میں صرف 11.2% حصہ female employment پر مبنی ہے جبکہ ملائیشیا میں 46.7% ہے، بنگلہ دیش میں 57.6% ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت واضح economic disparity پائی جاتی ہے، economic logic اس چیز کے favour میں نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد دس ہزار، بارہ ہزار روپے کمائے اور وہ financially and economically about 10 to 12 people of the family کو support کرے۔ پاکستان کی 51% آبادی خواتین پر مبنی ہے، that means we need to involve the female population of Pakistan in the mainstream economy.

جناب سپیکر! اس resolution میں دو examples دی گئی ہیں، ان میں پہلی مثال 'Baltistan Apricot Revolution' کی دی گئی ہے اور یہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان بالخصوص سکرودو میں ایک انقلاب آیا، وہ natural horticulture انقلاب تھا۔ تمام سکرودو میں گھروں کے compounds میں خوبانی کے درخت موجود ہوتے ہیں، عورتوں نے ان کو cultivate کیا، وہاں سے خوبانیوں کو اکھٹا کیا، اپنے گھروں میں مشینیں لگائیں، ان مشینوں کو بجلی سے چلایا اور خوبانی کا تیل نکالا، اس تیل سے خوبانی کی various by-products بنائی گئیں جن کی packing کی گئی، ان عورتوں نے خود ان کی packing کی اور اس ایک خوبانی کو value added market product میں convert کر دیا۔ وہ چیز مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ Pakistan is exporting by-products which are made by apricot. اگر ہم اس چیز کو promote نہیں کریں گے تو اس کے فوری disadvantages تو نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس طرح کی horticulture industry کو promote کرتے ہیں جیسے KPK میں ہمارے پاس peach, apricot ہے، ہمارے پاس پنجاب میں orange and mango کی کافی اچھی horticulture ہے۔ سندھ میں آپ کے پاس date, banana ہے، بلوچستان میں If you have got pistachio and cherry. we promote this thing, Pakistan has got immense potential in horticulture and not just that we can also attract those international organizations کی economic empowerment کے لیے interested ہیں، Pakistan can attract to those organizations for investment purposes.

Mr. Speaker! Now moving on the second part 'urban employment',

شہری علاقوں کی women work force کا 60% حصہ informal economy پر base کرتا ہے، which is a big disappointment. Why that disappointment? کیونکہ informal economy پر base کرنے والے یہ 60% شہری

عوام national economy میں constructively contribute نہیں کر سکتے، لہذا اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ حکومت ہماری informal economy کو 60% urban population کو regularize کرے تاکہ urban areas کی عورتیں بھی national economy میں contribute کر سکیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: انم محسن صاحبہ۔

Ms. Anum Mohsin: Thank you very much Mr. Speaker! I totally support the resolution and I would like to say that it has been so many years and we can see that women have not been highlighted to be playing a major role in the economy even now. In the 21st century when women all over the world play a very vital role but in Pakistan they don't. As far as related to the apricot revolution, I would just like to say taking example of the Punjab Government that recently the Punjab Assembly is considering that there should be a separate quota for women. You see after so many years at this time now there is just decision of starting the discussion, so I would like to highlight that the government indeed should help and promote micro financing to women and improve the rate of employment in women. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Ms. Anum Zia *Sahiba*.

محترمہ انم ضیاء: پاکستان میں population کا major portion عورتوں پر مشتمل ہے اور ہم اس کو deny نہیں کر سکتے، we should play on our strength، ہمیں عورتوں کو وہ سب کچھ دینا چاہیے جو ہم مردوں کو دے سکتے ہیں۔ آج کے دور کی عورتیں خودمختار ہیں، they are independent, they are capable of doing، اگر ہمارے پاس ideas ہیں، اگر ہمارے پاس business ventures کے لیے capability everything themselves، اگر ہمارے پاس ideas ہیں، اگر ہمارے پاس business ventures کے لیے capability ہے then we should come up and the government should support women to establish such businesses سے global platform پر آپ کے بارے میں positive سوچ بنے گی that you are supporting something like positive سوچ بنے گی، increase کو بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترمہ یسری فاروق صاحبہ۔

Ms. Yusraa Faaruq: Thank you Mr. Speaker! We talk about economic development. I don't know why we are not considering women in the economy? In current situation why we are not considering the fact that we are living in a state of poverty? If we consider that the women are part of our economy then we definitely boost not only the GDP of the economy and would also work for our budgetary imbalance.

First of all, I would like to speak for those women who are working in the Northern Areas where they produce small scale in cottage industry is very important considering that is basically cultural output is being produce but the amount that they receive is a lot less than what if you take the same output from the market. As an individual they receive nominal amount as compared to the amount that is actually being sold in the market. Why are we not giving them the exact amount that they deserve? I believe that the government should provide a proper channel or proper infrastructural facilities, solving energy crisis, especially transportation and anything that is linking them with urban to the rural sector. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Ms Seep Akhter Channer *Sahiba*.

Ms. Seep Akhter Channer: Thank you Mr. Speaker! Now taking the point about women empowerment forward, I would particularly like to talk about girls in my village in interior Sindh

جہاں پر اٹھویں کلاس سے زیادہ تعلیم نہیں ہوتی لیکن وہاں یہ talent is passed on from the mother to the daughter i.e, stitching. Now they can make any cloth look beautiful with the intricate design that they made with their hands. Now what I think is that the government should promote this talent, they should provide scholarship, they should provide the women with the basic infrastructure in larger scale and can emerge as an industry. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Ms Elia Naourz Ali *Sahiba*.

Ms Elia Naourz Ali: Thank you Mr. Speaker! We are talking about two things here, first is the economic crisis that is happening in Pakistan and secondly, the women empowerment. Mr. Speaker! We see that the general issue in Pakistan we have significant population percentage of women in Pakistan and we see that this significant population they don't fulfill their responsibilities either there will be significant consequences that can go against or for the country's economic crisis.

We are talking particularly about the women economic empowerment. In Pakistan, we feel that there is economic crisis and we see that there is energy crisis. We see that the large scale industries in Pakistan they are sleeping in the peak hours and we can see the benefit that has been seen by these large scale industries can not be distributed throughout the country. So, what we have promoting is that the importance of cottage industry in Pakistan itself that the women can work in their own homes and they can earn money, what this will do in this male chauvinistic area of Pakistan will promote in the economics of Pakistan and this will not create problems when we are talking about concept of male chauvinism. So, this small step will some where help to reduce Pakistan's economic crisis as well as it will not be a problem in the male chauvinistic area of Pakistan. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Ms Sahar Iqbal *Sahiba*.

Ms. Sahar Iqbal: I totally support this resolution but I will definitely provide the solutions enlightened them about جس طرح کوئی medium وغیرہ ہوتا ہے جس کے through ہم لوگ اپنی عورتوں کو workshops and certain things. Media is very strong in these days, what we can do is about their role in programmes organize it on media سے ان عورتوں کو اچھے طریقے سے the society enlightened کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترمہ رابعہ شمیم صاحبہ۔

محترمہ رابعہ شمیم: میں اس resolution کی مکمل حمایت کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں women beggary ہو رہی ہے، flood victims کی وجہ سے ہماری عورتیں corruption میں ملوث ہو گئی ہیں جس سے ہمارا rate of economy اور زیادہ گرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم عورتوں کو short technical courses کروائیں تو ان کے لیے بہتر ہو گا۔ اگر ہم cottage industry کو باہر سے investment کرنے کے لیے focus کریں تو it could be attracted. Economic empowerment of women can increase Pakistan's economy. Technical trained skilled women can beneficial for garment factories, textile industries as well. So, we should support women, طرح عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکیں گی۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترمہ الوینا رؤف صاحبہ۔

Ms Elvina Rauf: I totally support the resolution and I would like to give an example of my village which is

گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے جسے ہنزہ نگر کہا جاتا ہے، وہاں کی عورتوں نے NGOs کی مدد سے اپنی empowerment شروع کی۔ An Mountain Area Support Programme, Kararuram Area Development Organization, Agha Khan Rural Support Programme کے تعاون سے ہماری عورتیں پچھلے بارہ سے پندرہ سالوں میں independent ہوئی ہیں، وہ بالکل تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں اور انہیں اپنے دستخط تک کرنے نہیں آتے۔ ان عورتوں کو embroidery سکھائی گئی، ہماری مقامی cultural چیزوں کو promote کیا گیا اور اس کے ساتھ carpet weaving یعنی دو قسم کے قالین بنائے جاتے ہیں، یہ ان کو سکھائے گئے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں ہمارے پاس چیری، سیب، آڑو وغیرہ ہوتے ہیں، ہم اپنی زمینوں میں آلو اگاتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے ہمیں نئے طریقے بتائے کہ ہم نے انہیں کیسے promote کرنا ہے؟ packing کیسے کرنی ہے؟ مارکیٹ تک کیسے پہنچانا ہے؟ جب فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت فصل کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ کب پانی دینا ہے؟ plantation کیسے کرنی ہے؟ یعنی انہوں نے ہمیں A to Z چیزیں introduce کرائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں کی عورتوں کو سال چہ مہینوں کی practice کرائی۔ اسی طرح ہمارے ہنزہ میں CARDO کی ممبر عورتوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور انہوں نے لاہور اور پشاور میں آکر دیکھا کہ وہاں مرد کیسے قالین بناتے ہیں۔ وہ لوگ دھاگہ کہاں سے لاتے ہیں، وہ لوگ کن لوگوں کو یہ فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھیں اور جب ادارے نے ان کو support کرنا بند کیا تو بھی انہوں نے اپنا کام بند نہیں کیا۔ اب وہ independent بن گئی ہیں اور پچھلے بارہ سے پندرہ سالوں سے وہ خود کام کر رہی ہیں۔ لاہور سے دھاگہ لینے کے لیے وہ عورتیں خود آتی ہیں۔ وہ uneducated ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں میں مردوں کے ساتھ contribute کرتی ہیں۔

جناب والا! میں ابھی ریڈیو پر سن رہی تھی کہ UNEDO and PODA which are working for women empowerment کے لیے شہر میں کام کرتی ہیں انہوں نے women empowerment کے لیے initiative لیا ہے جو کہ بہت زیادہ encouraging ہے۔ UNEDO کی 'میری خاموشی کو بیان ملے' یہ چیز ریڈیو پر بہت زیادہ چلتی ہے، یہ بہت اچھا initiative ہے۔ اسی طرح حکومت کو بھی policies بنانی چاہئیں تاکہ rural and urban عورتیں آپس میں اپنی دستکاری، knowledge and skills کو exchange کریں۔ عورتیں بھی proper business women بن سکتی ہیں جس طرح مرد ہر پیشے میں self-sufficient ہیں اسی طرح عورتیں بھی self-sufficient ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترمہ سارہ عبدالودود صاحبہ۔

محترمہ سارہ عبدالودود خان (ڈپٹی سپیکر): بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب سپیکر! جس طرح سب لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی بات کی تو میں بھی اپنے علاقے کی بات کروں گی۔ جناب والا! میرے ضلع کا نام طورغر ہے جو پہلے مانسہرہ میں شامل تھا لیکن اب یہ علیحدہ ضلع بن گیا ہے۔ اس کا کوئی proper infrastructure نہیں ہے، وہاں پر نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، دریا بہتا ہے لیکن just like ایسے کہ آپ روزے دار

کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں اور کہیں کہ پیو، because they can not access to it پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ وہاں کی economy تو نام نہاد ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے معاش کا حصول صرف گندم اور مکئی کی فصل ہے، basically it is an agrarian district. لوگ کھتی باڑی کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں۔ مرد حضرات شہروں میں آکر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہاں پر کھتی باڑی کا کام وہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ مرد حضرات شہر سے گاؤں آتے ہیں تو وہ باتہ نہیں لگاتے، it means that it's a woman who knows how to do everything. کی cultivation کرتی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اسے پانی کیسے دینا ہے اور اسے کتے پانی کی ضرورت ہے، اسے یہ پتا ہے کہ کس موسم میں کیا کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ over power ہو جاتی ہیں، economically strong نہیں ہوتی۔ therefore, they are easily over powered by a man. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو mainstream میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ ان پہاڑوں کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، they don't know what is Urdu, they don't know what is Pakistan, they just know that they have، to look after family and feed them. What we can do communication system کے تحت وہاں پر کام کرنا چاہیے ایک سڑک بن جائے جو سوات سے link کرے لیکن road infrastructure پر as soon as possible کام ہونا چاہیے اور irrigation facility مہیا کرنی چاہیے۔ because there is a river flowing there. وہاں پر کھیتی باڑی کو extend کیا جا سکتا ہے، سبزیاں اگائی جاسکتی ہیں لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، ان کی کھتی باڑی that is depended on rainfall. اس سے کیا فائدہ ہو گا جو خواتین ہیں وہ economically strong ہوں گی، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر سکیں گی اور اپنی فیملی کو support کر سکیں گی۔ In a sense that ہماری خواتین پر cultural ban بھی لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر جا کر دوسرے لوگوں سے deal نہیں کر سکتیں، suppose اگر انہوں نے گندم کی کٹائی کر لی ہے تو اب وہ یہ گندم دوسرے لوگوں تک کیسے deliver کریں گی؟ for that they need a middle man، middle man بیچ میں آیا تو اس کو جو پیسے مل رہے ہیں اس میں بھی اس کی cutting ہو جائے گی، what I am expecting that شہروں سے عورتوں کو اس علاقے میں لایا جائے جو وہاں کی زبان کو سمجھتی ہو، وہ ان کی زبان میں ان کے ساتھ communicate کر سکے، ان کو بنا سکیں کہ packing کیسے ہوتی ہے؟ grading کیسے ہوتی ہے؟ As I have said they can not speak Urdu the women who should be brought in should speak Pashto. مردوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ man alone can not take this country to its height, they need a support of woman as well, because she also want to contribute.

جناب سپیکر! میرے علاقے کا نام طورغر ہے جس کا مطلب کالا پہاڑ ہے۔ I don't want the faith of this district to be like its name bleak, I request and demand from this government to kindly work by the uplifting of the women of my area. Thank you.

جناب سراج دین میمن: جناب سپیکر! Point of order.

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جی۔

جناب سراج دین میمن: جناب سپیکر! اس resolution کے movers نے لکھا ہے کہ Qatar National Vision 2030 میری ان سے درخواست ہے کہ kindly اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں resolution کی صحیح سمجھ آسکے۔

Mr. Presiding Officer: That is a correct point of order. Anyone mover is willing to respond on it?

Ms. Shaheera Jalil Albasit: Sir, I apologies despite it has been mentioned in the resolution but was not discussed. Mr. Speaker! what happened in Qatar in 2010 will see its impact in 2030 and what was that which took place in 2010.

ہوا کچھ یوں کہ قطر کی موجودہ حکومت نے ایک چیز devise کی جسے انہوں نے Qatar National Vision 2030 کا vision دیا جس کے تحت عورتوں کے entrepreneur business ventures کو excessive support ملنے والا ہے۔ پاکستان میں اس کی examples ملتی ہیں جس میں ایک مثال First Women Bank جہاں آپ کو ہر جگہ عورتیں کام کرتی نظر آئیں گی۔ قطر کے اس National Vision کے تحت جو بھی عورت کسی مخصوص ادارے کے پاس جاتی ہے اور ایک business idea دیتی ہے جو کہ workable ہے، feasible ہے تو حکومت اس کو funding کرتی ہے، اسے promote کرتی ہے اور اس عورت کے idea کو workable بنانے کے لیے ہر ممکن facility دیتی ہے۔ ہاں یہ بات agreeable ہے کہ دس یا بیس میں سے ایک ہی عورت اس طرح کی ہوتی ہے جس کو یہ facility ملتی ہے but that is more than enough کیونکہ عورتوں کو اس طرح کا platform مل جائے جہاں ان کو یہ surety ہو کہ اگر cottage industry کے بارے میں اگر ان کے پاس کوئی اتنے ہی workable ideas ہیں تو وہ قطر میں اپنی حکومت کے پاس جا سکتیں ہیں اور ان کو بتا سکتیں، that and she could have been funded, that is actually going on but we will see its impact in 2030 is اور اس کے دور رس نتائج 2030 میں دیکھے جائیں گے۔ شکر یہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترمہ مہرین سیدہ صاحبہ۔

محترمہ مہرین سیدہ: بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ بہت اچھی resolution ہے اور میں اسے مکمل support کرتی ہوں۔ سب لوگوں نے اپنے علاقے کی بات کی، میرا exposure لاہور کا ہے۔ میں وہاں پر شروع سے جو چیز دیکھتی آ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی NGO میں جائیں، کوئی conference attend کریں، جہاں women empowerment کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس resolution کے دو angles دیکھ لیے جائیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز آپ وہاں بالکل promote کریں، آپ ان کو ہر طرح سے empower کریں لیکن جب ہم شہروں کی طرف آتے ہیں، ہم professional studies کی طرف آتے ہیں تو اس کا ایک اور aspect بھی ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ جہاں بھی خواتین کو professionally promote کرنے کی بات ہوتی ہے I don't know ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک بھی ممبر مجھے سے agree نہ کرے لیکن ہم ہر جگہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے کوٹا مقرر کر دیتے ہیں اور جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے وہاں اس چیز کو بہت appreciate کیا جاتا ہے کہ خواتین کو mainstream میں لایا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم کوٹا مقرر کرتے ہیں چاہے میڈیکل کالج ہوں، چاہے engineering universities ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو employment دینی ہے، وہ اس طرح کی professional studies میں آئیں گی تو employment

میں آئیں گی، یہاں آپ گاؤں سے الگ رخ دیکھتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ان کو mainstream میں نہیں لا رہے بلکہ آپ ان کو مزید miserable بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں کتنے چیف جسٹس ایسے گزرے ہیں جو خواتین تھیں؟ کون سے بڑے عہدے ایسے تھے جہاں پر خواتین فائز تھیں؟ آپ ان کو ضرور لائیں۔ ہم سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کی مثال دیتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم تھیں، ٹھیک ہے لیکن یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ اگر ہم مردوں کی طرف جائیں تو وہ ان گنت ہیں، آپ کوئی ایسے professions بتا دیں جہاں پر مرد نہ ہوں۔ جہاں پر میرٹ کی بات آتی ہے تو ان کو ضرور لائیں، اگر ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے یا انہیں mainstream میں لانا ہے تو اس کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں اچھی expertise دیں، انہیں اچھی facilities دیں، پھر انہیں میرٹ پر لائیں، خدا کے لیے quota system نہ مقرر کریں۔

جناب سپیکر! میں دوسری بات یہ کہوں گی کہ کوئی بھی میری اس بات سے یہ meaning perceive نہ کرے کہ یہاں ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مردوں کو dominant کیا جائے۔ خواتین جن چیزوں میں excel کر سکتی ہیں وہ وہاں ضرور آئیں لیکن جہاں نہیں کر سکتیں وہاں پر اس طرح appreciate نہ کریں even میرا اپنا opinion ہے اور کوئی اس سے اختلاف کرے تو اس کی اپنی مرضی لیکن ہم نے قومی اسمبلی میں بھی خواتین کا کوٹا مقرر کر دیا ہے۔ اگر اس حلقے میں کوئی مرد جو زیادہ capable ہے then why ladies? ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا! کے لیے میرٹ پر ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کریں جو ان کے لیے مزید خطرناک ہو۔ شکر یہ۔ جناب پریذائٹنگ آفیسر: توصیف عباسی صاحب۔

جناب توصیف احمد عباسی: شکر یہ جناب سپیکر! قومی اسمبلی کے Article 89 کے تحت چیئرمین جو بیٹھے ہیں وہ جناب چیئرمین ہیں اور جو میڈم ہیں، وہ میڈم سپیکر ہیں، آپ یہ چیز پڑھ لیجیے گا شاید آپ نے یہ نہیں پڑھا ہو گا۔ جناب والا! میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین نے بہت اچھی resolution پیش کی ہے اور انہوں نے اس پر بہت اچھی discussion بھی کی ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا، اس میں سے کافی باتیں ان لوگوں نے cover کر دی ہیں۔ میڈم سارہ نے بہت اچھی بات کی کہ مرد حضرات جو اس ملک کے 49% ہیں صرف وہی صحیح طریقے سے اس ملک کو آگے نہیں چلا سکتے۔ میں گزارش کروں گا کہ عورتیں بھی آگے آئیں اور ملک میں contribute کریں، اس کی economy میں contribute کریں، جس طرح گلگت بلتستان میں وہ کر رہی ہیں۔ میں خود بھی چار پانچ دنوں کے لیے visit پر گیا تھا اور میں علی عباس کے علاقے تک گیا اور میں نے خود دیکھا کہ ماشاء اللہ وہاں عورتیں بہت اچھے طریقے سے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ اپنے گھر کا نظام خود چلا رہی ہیں، میں جب وہاں گیا تو مجھے یہ idea نہیں تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو صرف عورتیں ہی نظر آرہی ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں مرد بھی رہتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں مرد ہوتے ہیں لیکن وہ گھروں میں آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کافی عرصے سے یہ چیز چلی آرہی ہے کہ عورتیں کام کرتی ہیں جبکہ مرد کام نہیں کرتے ہیں۔ میں نے وہاں یہ چیز بھی دیکھی کہ انہوں نے وہاں بہت اچھا agriculture system بنایا ہوا ہے، میں نے وہاں کوئی بھی ایسا درخت نہیں دیکھا جو useless ہو، جس پر خوبانی نہ ہو، آڑو نہ ہو، سیب نہ ہو یا کوئی ایسا درخت جس سے ان کو کوئی benefit نہ

ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہاں کی عورت کو empower کیا گیا یا وہ خود ہو گئی ہے تو باقی ملک کے علاقوں جیسے سندھ کے اندرونی علاقے، پنجاب کے علاقے، آزاد کشمیر کے علاقے اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی اگر خواتین کے لیے training centers بنائے جائیں، ہم جس طرح بجٹ میں اربوں روپے کی allocation for subsidies کرتے ہیں، اگر ان خواتین کی training کے لیے بھی چند کروڑ روپے مختص کر دیے جائیں، ان کو سلائی کے لیے سلائی مشینیں لے کر دیں تو میرے خیال میں یہ خواتین ہمارے GDP کو increase کرنے میں کافی helpful ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: حماد ملک صاحب۔

جناب محمد حماد ملک: یہ resolution ایوان کی تقریباً تمام خواتین ممبران کی طرف سے پیش کی گئی۔ یہ اچھی resolution ہے، اس میں عورتوں کے کام کرنے کے بارے میں کئی باتیں ہوئیں اور اسی طرح micro-finance business establish کرنے کی بات ہوئی تو سب نے اپنے علاقوں کی بات تو میں بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے میں بھی عورتیں بہت کام کرتی ہیں، کھتی باڑی کرتی ہیں، مال مویشی کی دیکھ بھال کرتی ہیں، even گھر کے لیے گوبر کی صورت میں energy source تیار کرتی ہیں۔ بے شک کام جو بھی ہو معاشرے میں عورت کا ایک vital role ہے۔ یہاں پر ایک ممبر نے figure بتائی کہ پاکستان میں عورتوں کا تقریباً 11.2% only employment rate ہے جبکہ اگر ہم population growth دیکھیں تو اس وقت ہماری آبادی 51% more than عورتوں پر مشتمل ہے۔ اب عورت بچے کیوں سنبھالتی ہے؟ عورت صرف گھر کا کام کیوں کرتی ہے؟ نوکری یا کسی business پر توجہ کیوں نہیں دیتی تو اس کی کئی وجوہات ہیں، میں ان وجوہات کو mention کرنا چاہوں گا۔ سب سے زیادہ لوگ عورت کی نوکری کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ lack of knowledge ہے اور ایک ہمارا lack of Islamic knowledge ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی نوکری پر پابندی ہے، عورت نوکری نہیں کر سکتی تو اس کا جواب دین میں ہے کہ عربوں کے دور میں بھی عورتیں کجھوریں خشک کیا کرتی تھیں، even وہ جہاد میں مجاہدین کے ساتھ ہوتی تھیں، وہاں وہ nursing یا دوسری خدمات سرانجام دیتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ چیز volunteer ہوتی تھی لیکن وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ کئی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں باقاعدہ شریک ہوئیں اور انہوں نے کفار کو قتل کیا۔ اسلام میں عورت کی نوکری منع نہیں ہے، اس میں ایک اور وجہ lack of suitable environment of job آتی ہے، لوگ عورتوں کو نوکری نہیں کرنے دیتے کہ آگے environment اتنی suitable نہیں ہے کیونکہ ایک مرد خود باہر ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ باہر کس طرح کی environment ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں، بہن یا بیٹی اس environment میں جائے جہاں اسے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے main reason جہالت ہے۔ ہمارے لوگوں میں ایک ego پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں دس روپے ہی کما کر لا رہا ہوں، بیوی میری بے شک پچاس ہزار کما سکتی ہے لیکن نہیں، میں مرد ہوں میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کمانے کے لیے کیوں جائے۔ اس وقت خواتین کی 52% population ہے اور ان کا employment rate 11.2% ہے۔ میں اس resolution کی حمایت اس لیے کروں گا کہ ہمارا ملک اس وقت بہت ہی extreme energy and economic crisis سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں economic crisis ہے، لوگوں کے پاس پیسہ

نہیں ہے، عوام بھوکے مر رہے ہیں تو ایسے وقت میں جیسے انہوں نے Baltistan Apricot Revolution کی بات کی تو اس طرح کے مقامی سطح پر، گاؤں کی سطح پر steps بہت زیادہ appreciate کیے جانے چاہئیں۔

جناب والا! اس وقت ہمارے ملک میں situation ایسی ہے کہ اگر آپ کسی بھی کالج، کسی بھی یونیورسٹی کی مثال لے لیں، میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کی total population more than 28000 ہے جس کا more than 70% لڑکیاں ہیں، جب آپ ان کے لیے 14% quota مختص کرتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اس کے لیے میرے پاس کچھ steps ہیں، میں انہیں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ میری سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ provide safe environment for women, عورتوں کو اتنی safe environment دی جائے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے کام کر سکیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہو گا کہ increase and implement sexual harassment laws, جتنے قوانین ہیں، ان کے علاوہ بھی ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو اس وقت لاگو نہیں ہوئے۔ Severe punishment must be implemented against the laws, very severe punishment ہو اور وہ عوامی سطح پر ہوں، سب کو بتایا جائے کہ اس آدمی نے یہ حرکت کی تو اس کی یہ سزا ہے اور سرعام وہ سزا دی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں-Only women industry should be encouraged جس طرح بتایا گیا کہ First Woman Bank وہاں ساری عورتیں کام کرتی ہیں، آپ اس طرح کی organizations بنا سکتے ہیں، آپ departments totally عورتوں کو دے سکتے ہیں جہاں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنے کام کر سکیں۔ اسی طرح women education must be done compulsory قرار دے دی جائے تو جن علاقوں میں لوگ force کر کے اپنی خواتین کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں وہاں پر بھی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ increase in employment ratio آپ نے ان کی 12% ratio سے بڑھا کر 14% کر دی جو بہت کم ہے، already 52% ladies ہیں اور اس وقت اگر آپ economic growth دیکھیں جیسے میں نے ایک مثال اپنی یونیورسٹی کی دی کہ more than 70% لڑکیاں ہیں اور آپ ان کے لیے صرف 14% quota رکھ رہے ہیں تو باقی کی لڑکیاں کیا کریں گی۔ اسی طرح women must be work, made work under women میں نے پہلے بات کی کہ ایک علیحدہ محکمہ ہو اور اگر عورتوں کو مردوں کے نیچے کام نہیں کرنا پڑے گا تو اس طرح کوئی غیراخلاقی واقعہ پیش نہیں آئے گا جس سے انہیں نقصان ہو۔

جناب والا! ”Qatar National Vision 2030“ کی بات کی گئی تو اس طرح ہمارے ملک میں بھی Benazir Income Support Programme کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے شک وہ corruption کی نظر ہو گیا لیکن کوشش تو اچھی تھی۔ اس میں عورت کے شناختی کارڈ پر اس کو پیسے دیے جاتے تھے بجائے اس کے کہ مرد کو دے دیے جائیں۔ اس سے عورتوں کی کافی عزت بڑھی اور ہمارے وہ علاقے جو کافی backward سمجھے جاتے ہیں، وہاں پر عورتوں کا کبھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنایا جاتا تھا، جب انہیں اس چیز کی ضرورت پڑی تو پھر انہیں register بھی کرایا گیا اور اس پر توجہ دی گئی۔ اس طرح کے اور بھی projects should be initiated.

میری آخری suggestion یہ ہو گی کہ ہمیں اپنے minds broad کرنے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے minds broad نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہو گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئیر بنتی ہیں، وہ ڈاکٹر یا انجینئیر بن گئی اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور پھر خانہ داری اور بچے، اس سے ملک کو کیا نقصان ہوا؟ ایک سرکاری کالج جس نے اتنا خرچ کر کے ایک انجینئیر یا ڈاکٹر بنایا اور اس کی شادی ہوئی تو وہ گھر بیٹھ گئی تو اس کا directly loss ملک کی economy اور ترقی کو ہوا۔ ہمیں اپنے ذہن broad کرنے ہوں گے کہ اگر میں کسی ڈاکٹر یا انجینئیر سے شادی کر رہا ہوں تو وہ ملک کے لیے بھی ایک asset ہے۔

محترمہ ام ضیاء: جناب سپیکر! Point of order.

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جی۔

محترمہ ام ضیاء: جناب سپیکر! ان کا exactly point کیا ہے؟ وہ support کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں۔

محمد حماد ملک: میں نے کہ ہمیں اپنے ذہن وسیع کرنے ہوں گے کہ عورتوں کو اجازت دی جائے کہ وہ نوکری کریں، اسی لیے میں نے اس point کو آخر میں اور most important suggestion رکھی کیونکہ اگر ہمارے ذہن وسیع نہیں ہوں گے تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئیر ہے بس گھر میں ہی رہے گی۔ ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا ہو گا۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: شکریہ۔ عمیر نجم صاحب۔

Mr. Umair Najam: Thank you very much Mr. Speaker! Women are an integral part in the growth of any country's economy.

ہم لوگ خواتین کے کردار پر بالکل بھی اعتراض نہیں کر سکتے، خواتین کا economy میں بہت بڑا role ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر محمد یونس جنہوں نے ایک initiative لیا کہ گرامین بنک سے خواتین کو micro level پر loans کی صورت میں funding کی کہ اگر وہ کوئی ہنر جانتی ہیں اور اس ہنر کو بڑھانا چاہتی ہیں، اس کے ذریعے اپنے گھر کا معاش چلانا چاہتی ہیں تو وہ چلا سکیں and it was totally successful. اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی economy کو بہت زیادہ boom ملا and in regard of this he got a Noble Prize. So, it is an honour for the country as well and it is a kind of role model for Pakistan as well. They can learn from it that they can take a small initiative, they don't have to rely on the government but a single person or a woman who thinks that he can make a change so he should take the initiative to bring the change not relying on others that they will do and bring a change.

On the other hand, I will take a small example a woman from Pakistan started a small textile brand known as "Breeze"

انہوں نے اپنے گھر سے کام شروع کیا اور with passage of time and with dedication the small brand "Breeze" becomes world most known brand in South Asia. ایک خاتون کا initiative تھا کہ میں نے کس طرح

اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا ہے جب اس خاتون کے ذہن میں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کی سوچ آئی تو اس کے گھر کے حالات کے ساتھ ساتھ ملک کی economy میں بھی بہتری آئی۔ اس کے علاوہ میں World War-II کی مثال دینا چاہوں گا کہ جب برطانیہ پر جنگ کے حالات تھے تو وہاں کی خواتین کو حکومت نے urge کیا کہ وہ home front پر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ammunition manufacturing industry میں جا کر کام کریں اور ملک کو جنگی حالات میں مدد دیں۔ They played a very important role in the war of their country. These are kind of simple steps initiative لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور جس سے Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) can revolution آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں take initiatives to lodge such kind of ventures where only women and women belonging to remote areas markets can present their work. اس طرح انہیں اپنا کام دکھانے کا زیادہ scope ملے اور ان کے لیے باہر کی open ہو۔

جناب والا! میں اب شہروں کی بات کروں گا کہ شہروں میں، especially in Karachi, وہاں کی خواتین industries میں بہت زیادہ role play کر رہی ہیں and they are doing very hard work لیکن social security کی وجہ سے خواتین کو اتنی facilities نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ proper طریقے سے کام نہیں کر پا رہیں۔ ان کی social security کو بڑھانے کے لیے حکومت کو steps لینے چاہئیں تاکہ پاکستان کی خواتین جو ملک کی economy کی growth کے لیے اپنا role play کرنا چاہتی ہیں، وہ باہر آ سکیں اور پاکستان کی ترقی کی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میرا آخری point یہ ہے کہ ایک خاتون جو گھر سے کسی industry تک جاتی ہے، she is a person and we have to see this fact and we don't have to neglected. Thank you.

جناب پریذائٹنگ آفیسر: محترم حسیب احسن صاحب۔

جناب محمد حسیب احسن: بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب سپیکر! اس issue پر بہت زیادہ بات ہو گئی ہے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ خواتین میں بھی طبقات بنا دیے گئے ہیں، rural areas and urban areas, urban areas کی خواتین کو بہت زیادہ awareness ہے، ان کو knowledge بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت اچھی جگہوں پر نوکریاں بھی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس حکومت نے خواتین کے لیے بہت سے initiatives لیے ہیں، ہماری قومی اسمبلی میں خواتین ممبران ہیں، قومی اسمبلی کی سپیکر خاتون ہیں، سندھ اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر خاتون ہیں، اس کے علاوہ Women Protection Bill بھی خواتین کے لیے بنا ہے، Benazir Income Support Programme خواتین کے لیے ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے اور محکمے بنائے جن میں خواتین اپنا role play کریں، یہ تو urban areas کی خواتین کے لیے ہے لیکن rural areas کی خواتین ابھی بھی deprived ہیں، ان کو awareness دی جائے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، NGOs وہاں کام کریں، ان خواتین کو security provide کی جائے کیونکہ ابھی بھی rural and urban areas ہیں، یعنی جو بستیاں کہلاتی ہیں وہاں فیکٹریوں سے سامان آتا ہے اور خواتین گھر میں تیار کرتی ہیں، وہاں درمیان میں middle man کا کردار ہوتا ہے، وہ ان کی رقم بھی کھا جاتا ہے۔ یہ role بھی ختم کیا جائے۔ Rural areas میں خواتین کو awareness دی جائے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اپنی ego کو ذرا کم کر دیں۔ شکریہ۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر: اسامہ محمود صاحب۔

جناب اسامہ محمود: ملک کی economy میں عورتوں کے کردار اور ان کی empowerment کی بات کی گئی، no doubt ان issues سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ basic چیزیں ہیں جن کو ہماری society میں ignore کر دیا جاتا ہے۔ غربت جب آتی ہے یا جیسے بھی circumstances ہوتے ہیں تو عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے بہت willing ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ عورتیں کام کرتی ہیں لیکن مسئلہ اور بنیادی issue جس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کیا initiative لے رہی ہے؟ آج بھی دیکھیں تو چھوٹے بلکہ بڑے areas میں عورتیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اگر وہ skilled نہیں ہیں تو بھی وہ گھروں میں کام کاج کر لیتی ہیں۔ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورتیں کام کرنے کے لیے willing ہیں۔ اگر انہیں proper opportunities avail کی جائیں، انہیں skilled کیا جائے تو عورتیں کام کرنے کے لیے willing ہیں۔

جناب والا! ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر social, religious and cultural bounds, barriers لگائے ہوئے ہیں۔ عورت یہ کام نہیں کر سکتی، اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتی چاہے وہ جتنی بھی talented ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ میں سوات یا دوسرے علاقوں کی ایسی بہت سی خواتین کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور وہ اس لیے واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ سمجتی ہیں کہ ان کا skill and talent ختم ہو جائے گا کیونکہ وہاں انہیں اپنے آپ کو اوپر لانے میں وہی barriers روکتے ہیں۔ مختلف علاقے ہیں، جس طرح سیالکوٹ میں sports industry ہے، فیصل آباد میں textile garments and handicrafts وہاں ابھی بھی small scale پر خواتین کام کر رہی ہیں لیکن انہیں جو مزدوری دی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اگر ایک مرد کو کام کرنے کی مزدوری نو یا دس ہزار دی جاتی ہے تو comparatively عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پانچ یا چھ ہزار روپے مزدوری دی جاتی ہے یا contract system میں بھی بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ حکومت کو اس پر immediate and strict action لینا چاہیے، یہ نہیں کہ عورتیں نئے حالات میں آئیں گی اور کام کریں گی، یہ سب کچھ ہو رہا صرف حکومت کی طرف سے initiative لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں Development Support Communication Campaign (DSC Campaign) کی اشد ضرورت ہے۔ عورتوں کو motivate and mobilize کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو already کام کر رہی ہیں۔ اگر خواتین کو کچھ appreciation, medals, awards دیے جائیں تو یہ چیز سوسائٹی میں خواتین کو مزید upgrade کرے گی۔ شکریہ۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر: عمر ریاض صاحب۔

Mr. Muhammad Umar Riaz: First of all, I would like to take this opportunity to congratulate the movers of this resolution on bringing upon such knowledgeable resolution on the Floor of the House. Mr. Speaker! it has already been stated by the members and we have already been taught here today about the apricot revolution that how the women of the remote area converted the apricot into value added products. What we need to do is to increase the knowledge and awareness among the masses, among the women of

other parts of the region that such thing can happen and this is how we can do things and this is how we can contribute? The 51% of the Pakistani population can contribute to the country's economy and the economic disparity can be dealt with accordingly. Thank you very much.

جناب پریڈائنٹنگ آفیسر: شکریہ۔ جی محترمہ اشنا احمد صاحبہ۔

محترمہ اشنا احمد: شکریہ جناب سپیکر! ہم women employment and empowerment کی بات کر رہے ہیں۔ میں rural area کی بات کروں گی کہ اگر ہمیں وہاں عورتوں کو employment دینی ہے تو انہیں security provide کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہاں ان کے اپنے گھروں میں کتنے ایسے cases دیکھے ہیں جہاں اس سوسائٹی میں عورتوں کو norms سے ہٹ کر کام کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا case ہے جس میں گاؤں کا کوئی جرگہ عورتوں کو ملازمت کرنے کے جرم میں سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان مقدمات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو بہتر security provide کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ان کے گھروں میں basic security provide کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس خوف سے باہر نکلیں کہ ہمیں کام کرنے کی جگہ پر کچھ ہونہ ہو گھر والے ہی ہمیں سزا دیں گے اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔

Mr. Presiding Officer: I think we have completed the debate on the resolution. One thing I would like to ask the movers of the resolution that have you proposed the amendment that 'the government should use' or it is just a slip of pen?

Ms Shaheera Jalil Albasit: Mr. Speaker! we have not come up with the amendment as of yet but that is in making of resolution.

Mr. Presiding Officer: Now I put the resolution to the House;

"This House is of the opinion that the government should use the model of 'Baltistan Apricot Revolution' to introduce measures to facilitate the Micro-Finance Business Ventures of women in small cities where Cottage Industry is more exploitable and encourage Private Companies and Investors to increase women employment in the service sector of urban areas on the model of 'Qatar national Vision 2030'".

(The motion was carried)

Mr. Presiding Officer: The motion was carried unanimously. Mr. Amed Numair Farooq please move item No. 3.

ITEM NO. 3

POLICY STATEMENT

Mr. Ahmed Numair Farooq: Thank you Mr. Speaker! I am sorry for being late. By presenting the Finance Policy, I would like to mention here that we moved another motion in this House that we want recommendations from all the members in the House and this policy is based on those recommendations as well as the work that the Standing Committee on Finance, Planning and Economics. It is quite very extensive policy and it's based on 15 main points and I will define those points one by one.

Mr. Speaker! The economy of the country as you all knows is on a verge of crashing down because of a number of reasons, most important of which is energy crisis, high reliance on foreign loans

and aids, bailout packages for government institutions and high non-developmental budget and high trade deficit. This economic policy which I am presenting proposes the following reforms to be adopted:

1. Increase in Tax Income by levying more taxes such as tax on agriculture income and also broadening tax base and ensuring tax recovery from all economic sectors and all segments of society. Since luxury tax is a provincial subject so federation can not levy the luxury tax but it should be imposed in the same proportion because it does not allow anyone to manipulate that luxury tax if the ratio is different in different provinces manipulation occurs.
2. Tax evasion should be decreased.
3. Debt servicing should be done. Pakistan should stop borrowing more money from international money lenders and should only borrow money for those projects which have automatic pay back mechanism such as the mega projects in power sector.
4. The government should cut down non-developmental budget in order to reduce the budget deficit instead of printing more currency notes. This recommendation which was actually given in the House by the opposition benches.
5. There should be a specified budget for power projects. We know that the government does not have enough funds to initiate mega power projects, if you want create a power house of more than 1000MW, it will certainly require budget which is more than the whole volume of our total budget. So, what we are proposing here that the small power projects should be financed by the government but for mega power projects government should take money from international monetary agencies, it can be pay back automatically.
6. The cottage industry should be promoted and micro-financing should be carried out on negligible interest rates.
7. The public sector spending should be increased particularly in the health and education spending.
8. Reforms should be brought about in the trade policy and trade relations should be improved all over the world on the basis of mutual benefits of all trading partners.

On this point, I would like to mention the trade relation between Pakistan and China. It is an ambiguous fact people think that Pakistan is equally benefiting from the trade which is being taking place between Pakistan and China. Actually the trade which has been carried out is harming the industry in Pakistan. The Chinese products are being downtown in Pakistan and local economy is suffering. So, we need to reconsider our trade terms on which we are going paid with China.

9. Mechanism for promotion of export of services and value added goods should be promoted instead of raw materials.
10. The government should come up with the strategy for the successful survival in WTO regime. Measures should be taken for eradicating the petroleum balance by borrowing politically motivated subsidies, halting import of luxuries goods for the next five years and minimizing the non-developmental budget.

The issue of subsidy is very important because in Pakistan we have seen that the government issues subsidies on products which are equal for all the segments of the society. There is no concept of the satisfied income groups and the proportionate subsidies. So, what we are proposing here that government should come up with an idea, it should utilize another database in order to identify those individuals, families which are of the low income groups and subsidy should be directly towards those individuals and families because if you are giving subsidy on petroleum products and that petroleum products are being use by rich as well as the poor, the subsidy for both of them is equal. So, the subsidy amount as a share of the income is different, there is a hell of different between the two groups. We are proposing proportionate subsidy.

11. The reforms should be introduced in public sector organizations such as PIA, Pakistan Railways and Pakistan Steel Mills because economic progress is not possible without the proper and efficient functioning of these departments.
12. We should end our reliance on sales tax for revenue generation. We should rely on more direct taxes like I have already mentioned that we should levy on agriculture income.
13. Manufacturing sector should be promoted on priority basis because it is the sector on which all other sectors the primary and the tertiary sector depends on this sector.

If you are going to promote manufacturing sector, job opportunities in all sectors of the economy would be created. Budget should be forwarded to the members three months prior to the presentation of the budget because we have seen that the legislators do not have sufficient time to study all the material and that's why they are not able to come up with effective and efficient recommendations for the budget. We are proposing that the government should prepare budget three months prior to the presentation and it should be forwarded to the members of the legislative assemblies.

14. This point actually raised by honourable Leader of the Opposition that currently in Pakistan the cost of production is so high and that's why Pakistani industry can not compete in international markets. So, we are proposing that the government should help agriculture sector and all other small businesses by reducing the cost of production and subsidies should be directed towards this sector, rather than fixing by lower prices as we have already debated in this House that the wheat prices should be fixed on a limit. We are proposing that the subsidy should be directed towards the production process rather than on the sales or marketing sources.
15. Most of the Members wanted the military budget to be reduced and some of them also wanted that to be increased but we have recommended that the military budget should be kept at the same level because recently India has increased its military budget. So, the military budget depends on the foreign policy initiatives. If you are going to reduce military budget you have to sign a long term ceasefire deal with India, that's why we have kept the military budget at the same level. We have proposed that the military budget spending which are directly towards the military businesses like the DHA, Fauji Fertilizer Institutions that should be

barred. What is happening here that those organizations are in loss and the military budget which is actually allocated for buying weapons and for the training of the military personnel that is spend as bailout packages for those institutions and the military budget does not come under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan. We have proposed that a Bill should be passed by the Parliament that the military budget should be brought under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan and those institutions should not be given any bailout packages.

Mr. Presiding Officer: Thank you Mr. Nomair *Sahib*. Mr. Hammad Malik *Sahib*.

محمد حماد ملک: جناب سپیکر! میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معزز وزیر صاحب اگر ضروری سمجھیں تو یہ ہمیں paper form یا email کر دیں کیونکہ جب انہوں نے تیسری proposal بتائی تو ہمیں پہلی proposal بھول چکی تھی۔

Mr. Presiding Officer: The Secretariat has circulated the report prior to the commencement of the Session and now would you like to refer this matter to the Committee.

Mr. Ahmed Nomair Farooq: As I have already mentioned that I have undertaken the recommendations of the Committee in the policy, so I don't think there is need to refer this to the Committee.

Ms Yusraa Faaruq: We had a meeting yesterday and there we discussed the entire policy and the Committee fully agrees with the policy that has been put forward by the Minister.

Mr. Yasir Riaz: Sir, I am also a member of Committee. It was discussed yesterday in the Committee meeting but whole policy was not presented there, how do I am agree with them that the many points of the Committee included in their work but policy is not presented there and it is better forwarded it to the Committee.

Mr. Presiding Officer: Yes Prime Minister *Sahib*.

محمد ہاشم عظیم (وزیر اعظم یوتھ پارلیمنٹ): شکریہ جناب سپیکر! میں ایوان میں اس policy statement کا تھوڑا سا background پیش کرنا چاہوں گا، Sir، it will be very brief، ہم نے اس policy پر from the initial draft and making the of final draft اپنی پارٹی میں بھی discuss کی تھی اور اس policy تک پہنچنے کے لیے بہت healthy debate ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایوان میں ایک motion بھی move کیا تاکہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو اور اپوزیشن کے ممبران کی incorporations کو بھی اپنی policy میں شامل کر سکیں اور ہم ایک ایسی substantial policy کی طرف جا سکیں جو کہ مفید ہو۔ اسی وجہ سے motion move کیا گیا تھا اور آج ہم اپوزیشن ممبران کی recommendations کو incorporate کر کے اس policy تک آگئے ہیں۔ I think the policy is clear لیکن اگر اپوزیشن یا کمیٹی ممبران کی یہ رائے ہے تو we can forwarded to the Committee for further opinion. Thank you.

جناب پریڈائنڈنگ آفیسر: یاسر صاحب وہ بھی ممبر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کمیٹی کو refer کر دیں جبکہ چیئر پرسن اور آپ بھی کہہ رہی ہیں اسے refer نہ کریں۔ Now how it goes is, that the government or the Minister Incharge وہ پالیسی دیتے ہیں، پالیسی کو کمیٹی review کرتی ہے، کمیٹی recommendations بنا

کر Chairperson or Member of the Committee ان recommendations کو ایوان میں لے کر آتا ہے۔ اگر آپ نے پالیسی دینی ہے تو you are more than welcome, for recommendations you have to refer to the Committee. جناب احمد نمیر فاروق: جناب سپیکر! ہم نے government policy present کی ہے، آپ review کے لیے refer کر سکتے ہیں لیکن recommendations کے لیے تو refer نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے already recommendations incorporate کی ہیں۔

Mr. Presiding Officer: Leader of the Opposition.

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): جناب سپیکر! وزیر انچارج نے ابھی کہا کہ ہم defence budget کو as it is رکھنا چاہیں گے۔ جناب والا! ہمیں Secretariat نے بجٹ پر before the commencement of the Session ایک report forward کی تھی، اس میں table form میں clearly یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کے بجٹ میں 12% increase ہوئی ہے۔ اس میں آرمی کے operational، supplies وغیرہ کے major chunk پر ہوئی ہے۔ ہمارے equipments، bullets یا ہمارے tanks and weapons پر کوئی خاطر خواہ increase نہیں ہوئی، اسے ویسے ہی رکھا گیا ہے۔ جیسے آپ نے capacity building and relativism کی بات کی کہ ہماری انٹیا کے ساتھ جو amenity ہے اور جو ہمارا arch rival ہے، ان کا بہت زیادہ manifold budget ہے، ہم اس کا conventional military warfare میں کبھی بھی competition نہیں کر سکتے and it is open fact. Kindly آپ اس کو review کریں اور اگر ہم operational پر کچھ austerity measures کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے بھی اس بجٹ میں یہ propose کیا تھا کہ سول انتظامیہ کے austerity measures جاری رہیں گے، kindly اسے review کیا جائے۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر: نمیر صاحب! آپ نے اپنی policy دی ہے what we can do is that کہ ہم اسے کمیٹی کو refer کر دیتے ہیں کہ وہ review کر لے، اگر کمیٹی further recommendations بنانا چاہتی ہے تو وہ recommendations Chairman یا کوئی بھی ممبر پیش کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ویسے بھی آپ کی پالیسی ایوان میں آچکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ O.K. your policy is adopted because the Chairperson has made a point of view. Thank you.

ITEM NO. 7

RESOLUTION

Mr. Presiding Officer: Now we take up item No. 7 of Mr. Ahmed Numair Farooq, Mr. Aamir Khan Khichi, Mr. Amir Abbas, Mr. Ubaid ur Rehman, Mr. Zafaruulah Gugh, would like to move the following resolution:

“This House is of the opinion that the involvement of military in businesses should be strongly discouraged and legislation should be done in this regard, moreover organizations such as DHA and Fauji Foundation should be brought under the jurisdiction of Auditor General of Pakistan”.

جی نمیر فاروق صاحب۔

جناب احمد نمیر فاروق: جناب سپیکر! جیسے میں نے ابھی mention کیا تھا کہ ہماری افواج

is more and more involved in businesses right now rather than focusing on the defence aspect of its objective. So, we are proposing here that involvement of military in the businesses should be kept at minimum and it should be ultimately eradicated completely. Secondly, the military organizations such as DHA, Fauji Fertilizer and a lot of other organizations, audit of these organizations is currently done by the Auditors appointed by the Military and the Auditor General of Pakistan who is entitled to audit all the other civilian sectors in Pakistan civilian organizations and private sector organizations is not entitled to audit these organizations. So, that's why we can say that there is a legalized and mechanized corruption being going on in those institutions because those institutions have a protection given by the Constitution that you are not currently under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan, so you are act your own will, you can do whatever you want to with the funds allocated to you.

We are proposing that those organizations should be brought under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan and secondly, involvement of military in businesses should be minimized. Thank you.

Mr. Presiding Officer: Thank you. Yes Mr. Aamir Khan Khichi *Sahib*.

Mr. Muhammad Aamir Khan Khichi: Thank you Mr. Speaker! I would like to highlight some dimensions of military industrial complex in Pakistan.

جناب والا! ہم currently دیکھ سکتے ہیں کہ، apart from DHA and Fauji Foundation، FFC or Askari Housing Schemes وغیرہ ایک طرح سے industrial complex ہے جسے آرمی چلا رہی ہے۔ This is not the part of job of military which they are doing in Pakistan. As you know, we are facing strong resistance on enmity from our eastern border. dimensions کے military میں خطے سے خطے کے military میں on enmity from our eastern border. change ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمیں western part پر افغانستان کی طرف سے ایک نیا threat نظر آ رہا ہے۔ ہم جو issue discuss کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرمی اپنے کام سے divert کر رہی ہے جو civilians کے کام ہوتے ہیں اور ہمیں کرنے چاہئیں وہ ہمیں ہی کرنے چاہئیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی جو issues چل رہے ہیں اور ان میں military کی involvement سے پاکستان کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں، پاکستان کے defence پر کیا impact پڑ رہا ہے اور over all ہمارے security scenario پر کیا impact پڑ رہا ہے؟ First of all آپ دیکھیں کہ پچھلے دو مہینوں کے اندر پاکستان ائیر فورس کے تین ائیر کرافٹ گر کر تباہ ہو گئے ہیں، انہوں نے میڈیا پر اس کو زیادہ highlight نہیں کیا لیکن یہ چیز ہمارے security parameters میں loopholes کی نشاندہی کرتی ہے۔

جناب والا! دوسری چیز یہ کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ balance of terror or balance of threat وہ with the passage of time severely damage ہوتا جا رہا ہے، ہم نے اس gap کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں آرمی کی business میں interference کو کم کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس ایوان اور اس سے باہر یہ opinion رکھتے ہیں کہ آرمی کو revenue کی ضرورت ہوتی ہے یا انہوں نے اپنا revenue خود generate کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم international security environment کو compete نہیں کر رہے یا civilians کی نااہلی کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے۔ جناب والا! جیسے کل ڈاکٹر صاحب Europe or East Asian Nations کی مثال دے رہے تھے تو میرا point of view یہ ہے کہ Europe or East Asian Nations or Japan whatsoever وہ nations ایک دن میں develop نہیں ہوں، it takes

time انہوں نے ایک سفر طے کیا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی ایک Bush کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کو خود چلائے۔ ہمارے سامنے موٹروے project ہے جس کو civilians run کر رہے ہیں، اس کی کامیابی ہم سب کے سامنے ہے، اس کے علاوہ banking sector ہے، telecom sector ہے، even کہ جو constitutional matters ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا atomic weapons کا ایک نظام تھا وہ بھی سارا civilians کے under تھا جس کی کامیابی ہم سب کے سامنے ہے۔ جیسے نمبر بھائی نے elaborate کیا اور میں بھی پورے ایوان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ issue جو بہت ہی اہم ہے جس پر ہمارا پورا defence depend کر رہا ہے، اس پر ہمارے ملک کی over all security vulnerable ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں military involvement کو کم کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: شکریہ۔ عامر عباس صاحب۔

جناب عامر عباس: بسم الله الرحمن الرحيم۔ شکریہ جناب سپیکر! In my point of view there is a desire need of minimizing the role of military in the said business organizations. movers نے اس بات کا ذکر کیا کہ آرمی کا اپنا بجٹ اور ان کی core ذمہ داری ہے یعنی we can see military is loosing focus on its prime objectives. اس کے علاوہ ان محکموں کے حوالے سے میڈیا نے کافی چیزیں highlight کی ہیں اور اس میں کافی scandals بنے ہیں اور high rank military officers بھی کرپشن وغیرہ میں involve ہیں۔ اگر ہم ERRA کی بات کر لیں، اس میں آرمی کی involvement زیادہ ہے، DHA ہے یا فوجی فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ بھی کچھ organizations ایسی ہیں جن میں ان کا influence بہت زیادہ ہے لیکن ان کا output as compared to other government departments اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں اس میں یہی کچھ کہنا کافی سمجھوں گا کہ بزنس میں آرمی کے کردار کو محدود کیا جائے، وہ سرحدوں کے محافظ ہیں اور انہیں وہاں اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جناب محمد ظفر اللہ صاحب۔

جناب محمد ظفر اللہ: شکریہ جناب سپیکر! جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ آرمی کو اپنے کام پر focus کرنا چاہیے اور یہ ان کا real objective ہونا چاہیے۔ دوسری بات جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کو اپنی income generate کرنے کے لیے اس طرح کے projects میں investment کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے expenses کو create کرتی رہے تو اس سلسلے میں میری ان کو یہ suggestion ہو گی کہ بجائے وہ civilian institutions میں investment کریں، ان کو چاہیے کہ وہ military related equipments like aircrafts, tanks وغیرہ میں production کرتے ہیں اور اس کو export کرتے ہیں تو I think اس سے کافی income generate ہو سکتی ہے۔

دوسری چیز یہ کہ military کے دو بڑے اداروں DHA and FFC پر allegations بھی لگ رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض والے case میں ہمارے کچھ جنرلوں کے بھائی بھی شامل ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی auditing Auditor General of Pakistan سے کروائی جائے تاکہ ان پر جو allegations لگ رہے ہیں، ان کے متعلق صحیح پتا چل سکے کہ کیا یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ شکریہ۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: وقاص احمد صاحب۔

جناب وقاص احمد: شکریہ جناب سپیکر! I am partially agreed with this resolution. Military business! defence budget میں بھی contribute کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آرمی کو بالکل side پر کر دیں، اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے advantages بھی دیکھیں کہ کیا ہیں، صرف اس کے draw backs نہ دیکھیں۔ Fauji Fertilizer پاکستان کی leading fertilizer company ہے جو fertilizer کی production دے رہی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت مسئلہ ہے کہ کسانوں کو اس تک پوری رسائی نہیں ہے، کسانوں کی fertilizer کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اب بھی کچھ لوگ black میں فروخت کر رہے ہیں۔ DHA جیسی schemes ہے

Mr. Gohar Zaman: Point of order.

Mr. Presiding Officer: Yes.

جناب گوہر زمان: جناب والا! میں چھوٹی سی clarification کر دوں کہ اس وقت ان کی production اس لیے زیادہ ہے کیونکہ army کے influence کی وجہ سے وہاں گیس کی لوڈشیڈنگ نہیں ہو رہی جبکہ باقی لوگوں کو گیس نہیں مل رہی۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جی وقاص صاحب۔

جناب وقاص احمد: جہاں تک گیس کا تعلق ہے تو میں مانتا ہوں کہ انہیں سستی گیس دی جاتی ہے، اس پر حکومت کسانوں کو subsidy دے رہی ہے، subsidy ان کا حق ہے اور ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے، وہ اس کی قیمت reduce کر دیتے ہیں۔ DHA جیسی schemes ابھی تک نہیں آئی ہیں، آپ کوئی دوسرا ادارہ دکھا دیں جس نے ان جیسی development کی ہے۔ آپ DHA کے علاقوں میں جائیں اور دیکھیں کہ ان جیسی schemes ابھی تک نہیں آئیں۔ اس میں دوسرے لوگ بھی contribute کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آرمی ہماری economy میں contribute کر رہی ہے، ہمارا defence budget بڑھتا ہے اور وہ defence budget میں بھی contribute کرتی ہے۔

اس کے علاوہ Auditor General of Pakistan سے ان کا audit کرانے کا معاملہ ہے تو آپ بالکل ان کا audit کرائیں، وہ ہونا چاہیے، ان کو accountable بنایا جائے، میں اس سے agree کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ آپ آرمی کو بالکل discourage کریں۔ ان کا علیحدہ department ہے، ان کے پاس اس کے لیے human resource ہے، ان کی علیحدہ management ہے اور میرے خیال میں انہیں encourage کرنا چاہیے۔ شکریہ۔

Mr. Presiding Officer: Now the Session is adjourned for tea break and we will *Insha Allah* meet after tea break.

[The Session was then adjourned for tea break]

[The Session was reassembled after tea break at 11:40 a.m. with the Chair of Madam Deputy Speaker]

Madam Deputy Speaker: Let's move to the remaining business. I would request Mr. Umer Raza to kindly speak on the resolution.

جناب عمر رضا: میڈم سپیکر! جیسا کہ آرمی کے کام کرنے پر بات کی جا رہی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ آرمی کا کام صرف defence کرنا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب آرمی کو تو خود کسی محافظ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہمیں اس کی مثالیں سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ، مہران بیس پر حملہ اور جی ایچ کیو پر حملے کی صورت میں ملتی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آرمی کو خود کوئی محافظ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں borderline area سے تعلق رکھتا ہوں اور ہر دس بارہ دنوں بعد border کا visit کرتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرحد پر کوئی فوج نہیں ہوتی جبکہ انڈیا کے border پر ان کی security اتنی tight ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے علاقے میں چونکہ جنگلات ہیں، آرمی وہاں جنگل کو کاٹتی بھی ہے، بیجتی بھی ہے اور بہتہ خوری بھی کرتی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب میرے borderline area میں حالات کشیدہ ہوئے تو بھارت کی آرمی نے وہاں سے ہماری آرمی کے آدمیوں کو اٹھایا اور انہیں اپنے علاقے میں لے جا کر شہید کر کے لاشیں واپس بھیج دیں۔ انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے ناخن کھینچے گئے، ان کی drilling کی گئی۔ میں اپنے معزز رکن کھچی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں military کو revenue دیں لیکن انہیں civilian supervise کریں۔ اگر آرمی کے control and command میں collapse ہوں گے، ان کے officers AC کے نیچے بیٹھے رہیں گے تو آرمی کو کون control کرے گا؟ اس لیے آرمی نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، FFC, Askari Bank and Askari Cement میں انہیں appreciate کرنا ہوں لیکن آرمی کو چاہیے کہ ان کاموں کی بجائے اپنے کاموں کی طرف زیادہ توجہ دے کیونکہ اس کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ آرمی تو کراچی میں امن نہیں لا سکی تو یہ ملک میں کیا کام کرے گی۔

Mr. Fahad Mazhar Ali (Leader of the Opposition): Point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

Mr. Fahad Mazhar Ali: Madam! This is not the responsibility of the army

کیونکہ آرمی ہماری سرحد کی حفاظت کرتی ہے، سول انتظامیہ موجود ہے ابھی system derail نہیں ہوا۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی سراج میمن صاحب۔

جناب سراج دین میمن: شکریہ میڈم! میں اس resolution کے movers کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایوان کی توجہ ایک concern mater کی طرف مبذول کرائی۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے سیاست میں اور کاروبار میں آرمی کی interference رہی ہے۔ یہاں پر لکھا تھا کہ DHA foundation ہے، میرا تعلق سندھ کراچی سے ہے اور میرے نوٹس میں یہ بات ہے کہ super highway پر زیادہ تر gasoline stations serving or retired army officers کے ہیں۔ اگر ہم ان army officers کی salaries دیکھتے ہیں اور ان کے کاروبار دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی تنخواہ اتنی ہے اور ان کا کاروبار اتنا زیادہ ہے تو اس کے لیے ان کے پاس پیسے کہاں سے آگئے کہ وہ اتنی بڑی بڑی investments کر رہے ہیں؟ NLC ایک علیحدہ ادارہ ہے، stock exchange میں اس کے shares ہیں، یہ alarming situation ہے کہ آپ اپنی position کو misuse کر رہے ہیں۔ Similarly, organization The Citizen Foundation ہے، اس میں بھی سارا سٹاف آرمی کا ہے اور اس کی ساری recruitment Army کے under چل رہی ہے۔ Civilian Institutions میں آرمی کی interference or business جو serving ہیں، retired Army officials business کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ serving ہیں، وہ اپنے کام چھوڑ کر

business میں لگے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی امر اقتدار میں آتا ہے تو یہ influence زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں ممبران کو مبارکباد پیش کروں گا اور ایوان سے گزارش کروں گا کہ آئین میں amendment کی جائے کیونکہ اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے، باقی resolution سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم عوام کی طاقت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں تو اس کے لیے ساری عوام کو آگے آنا پڑے گا۔ Military persons powers کو misuse کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہو گا۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب سلیم خان صاحب

جناب سلیم خان: شکریہ میڈم سپیکر! میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آرمی کا صرف یہ role ہے کہ there should be check and balance. Check and balance ہونا چاہیے اور آرمی کا سب اہم کام border کو secure کرنا ہے۔ میں اپنے شہر کی مثال دوں گا کہ ہمارے cantonment area میں Army officials کے ساتھ کچھ civilian لوگ ہوتے ہیں، وہ زمینیں خریدتے ہیں اور مکانات بنا کر بارہ، تیرہ، پندرہ لاکھ روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ اس میں آرمی کے آدمیوں کا بھی share ہوتا ہے اور civilian لوگوں کے بھی share ہوتے ہیں۔ اس لیے military کے role پر check and balance ہونا چاہیے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر! جناب تبریز مری صاحب۔

جناب تبریز صادق مری: سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آرمی کے business کرنے کو بالکل encourage کرتا ہوں، it's a good thing، وہ بے شک business کریں، but I discourage the military، monopoly in the business میں یہاں پر کچھ مثالیں دینا چاہوں گا جس طرح حکومتی ممبر کی طرف سے Fauji Fertilizer کی مثال دی گئی کہ پورے پنجاب میں گیس بند تھی لیکن Fauji Fertilizer کو گیس مل رہی تھی because they were using their undue influence. اس کے علاوہ، Pakistan Aeronautical Complex Kamra کو to make aircrafts budget allocate کیا جاتا ہے but they were making Pak-Pads a copy of i-Pad which are sold in the local market for US\$ 200 approximately. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا Pak-Pads کے لیے کوئی بجٹ allocate کیا گیا تھا؟ I don't think so، the budget was allocated for the aircrafts not for making a copy of i-Pad.

اس وقت آرمی کی business empire is approximately US\$ 10 billion اور میں یہاں عائشہ صدیقہ کی Military Incorporate سے ایک چیز quote کرنا چاہوں گا کہ right now Army handle 7% of our national GDP, 1/3rd of our heavy manufacturing ہے۔ کیا آرمی کی accountability نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آرمی کی monopoly پر check and balance نہیں ہونا چاہیے؟ I think بالکل کرنا چاہیے army should engage in business if it can engage fairly in business اور نہ آرمی کو اس طرح کی practices میں engage کرنا چاہیے۔ شکریہ۔

Mr. Gohar Zaman: Point of order.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی۔

جناب گوہر زمان: Actually Military کا جو business ہے اور جن firms کا نام لیا گیا ہے these are separate things, یہ retired Army officers کی بنائی ہوئی organizations ہیں جو کہ آرمی کو pay back نہیں کرتیں، Military کا business ایک separate چیز ہے جس سے وہ revenue generate کرتی ہے۔
 میڈم ڈپٹی سپیکر: گوہر زمان صاحب! اس resolution پر آپ کیا بات کرنا چاہیں گے، but you can not put the questions like that.

جناب گوہر زمان: شکریہ جناب سپیکر! اس resolution میں جو بات prime ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو organizations کا نام لیا گیا ہے۔ میں اس چیز کو بالکل support کرتا ہوں کہ اسے Auditor General of Pakistan کے under آنا چاہیے۔ کچھ retired Army Generals تھے، انہوں نے اپنی ایک organization بنائی اور اپنے فنڈز جو انہیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد ملتے ہیں انہیں استعمال کر کے یہ organization بنا لی لیکن اب ہوا کیا کہ ان لوگوں کو جو ساری subsidies مل رہی تھیں اور وہ military influence use کر رہے تھے، اس سے کیا ہوا کہ انہیں اس میں tax relation ملنا شروع ہو گئیں اور اس میں جو revenue generate ہو رہا تھا، وہ ان کی اپنی جیبوں میں جانا شروع ہو گیا جس سے آرمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی گیس لوڈشیڈنگ کی مثال دے رہا تھا کہ گیس fertilizer کے لیے key raw material ہوتی ہے۔ اب جب پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے fertilizer industry کی گیس بند کی لیکن اس دوران صرف دو fertilizer plants ایسے تھے جہاں گیس دی جا رہی تھی۔ ان میں ایک Fauji Fertilizer کا پلانٹ میرپور ماتھیلو میں چل رہا تھا اور دوسرا Pak Arab Fertilizer Plant ملتان میں چل رہا تھا۔ ملتان والا پلانٹ چونکہ وزیر اعظم کے دوست کا تھا اور یہ اس لیے چل رہا تھا کیونکہ یہاں فوجیوں نے گیس بند کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس دوران باقی کی industries badly suffer ہوئیں اور military monopoly create ہو گئی جس طرح تیریز بھائی بات کر رہے تھے۔ یہ military monopoly ہوتی ہے کہ وہ tax بھی اس حساب سے pay کر رہے ہوتے ہیں جس حساب سے انہیں دینا چاہیے جو due amount ہے، وہ with their influence infrastructure کو استعمال کر رہے ہیں اور tax subsidies کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب وہ business کر رہے ہیں تو کیا وہ Military Laws کے اندر آ رہا ہے یا کیا وہ out of the Military Laws ہے تو یہ ایک ٹکٹ میں دو شو دیکھنے والی بات ہو رہی ہے، یہ Military کی subsidies use کر رہے ہیں لیکن revenue اس طرح generate کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح civilian generate کرتے ہیں۔ If they are generating revenue like a civilian organization then they should be accountable like a civilian organization. So, this should be brought under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan and their assets should be properly monitored. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر! جناب یاسر ریاض صاحب۔

جناب یاسر ریاض: شکریہ میڈم سپیکر! جس طرح ہمارے معزز ممبر نے بتایا کہ جس طرح military business کا system بنایا گیا ہے، اس کے لیے rational Army persons کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ریٹائرڈ آدمیوں کی welfare کے لیے کوئی system ہونا چاہیے کہ ایک شخص کو آپ دس پندرہ سال عام حالات سے الگ ایک tough situation میں رکھتے ہیں اسے واپس زندگی میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی system بنایا جانا چاہیے، اس کے لیے initially Fauji Foundation, Bahria Foundation and Shaheen Foundation بنائی گئیں، بعد

میں Army Welfare Trust کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کو شروع میں کچھ investments بھی دی گئی اور انہوں نے مختلف businesses میں investment بھی کیا اور revenue generate کیا۔ اس پورے process میں جو مختلف problems آتے ہیں، میں ان کو point out کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پورے process کے ذریعے public funds hidden طریقے سے اس کا flow private sector کی طرف ہے۔ یہ firms market میں as a private player کے طور پر act کرتی ہیں لیکن وقت پڑنے پر یہ government sector کے resources use کر لیتی ہیں۔ میں اس کی دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ Askari Aviation جو ایک private company کے طور پر کام کرتی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر وہ Army Aviation Wing کے equipment and employees کو بھی use کر لیتی ہے۔ Army Welfare Trust پر بہت زیادہ بات ہوئی، اس پر بہت کچھ لکھا بھی گیا کہ انہوں نے GHQ کے بہت funds use کیے۔ کیا یہ enterprises ان تمام authorities کو use کر کے ان کے profit میں جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ بہت heavy loss میں جاتی ہیں اور جب یہ loss کرتی ہیں تو ان کو bailout package دے دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر Army Welfare Trust نے 1994-95 میں تین چار نئے businesses start کیے تھے جن میں fertilizer and two or three other business start کیے۔ انہیں دو سالوں کے اندر بہت heavy loss ہوا اور انہوں نے حکومت سے تین مرتبہ اربوں روپے کا bailout package لیا جو میرے اور آپ کے tax سے pay کیا جا رہا تھا اور صرف ان Army officials کے business میں غلطی کی وجہ سے انہیں pay کیا گیا۔

اسی طرح اس کے ساتھ ایک اہم issue ہے کہ جب کسی بھی ملک میں آرمی آپ کے business میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک will بڑھ جاتی ہے کہ وہ politically اپنی power اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی کتاب کی بات کی گئی، انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے list out کیا ہے کہ کن کن ممالک میں آرمی civilian authorities کے اندر business کرتی ہے اور کن ممالک میں آرمی separate business کرتی ہے۔ ہر وہ ملک جس میں Army separate business کر رہی، وہاں ہر پانچ سال، دس سال بعد Army takeover بھی کرتی ہے۔ So, there is a direct relationship between these two, اس چیز کو discourage کرنا چاہیے۔ شکر یہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Kashif Yousaf Badar Sahib.

جناب کاشف یوسف بدر: یہاں آرمی کی بات ہو رہی ہے تو کسی بھی ملک کی سالمیت کا انحصار اس کی different organizations کی strengthen ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب وہ اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرے۔ جب کوئی ادارہ یا انسان اپنی حد سے بڑھ کر کام کرے گا تو وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور اس کا ملک بھی نقصان اٹھائے گا، یہی مسئلہ ہماری آرمی کا ہے کہ ہیں تو ہو گھر کے چوکیدار مگر گھر کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہمارے ملک میں Army defence policy بھی بنا رہی ہے، foreign policy بھی بنا رہی ہے۔ کسی نے باہر سے آ کر کسی سے بات کرنی ہے تو وہ صدر اور وزیر اعظم کو بعد میں ملتا ہے پہلے آرمی چیف سے ملاقات کرتا ہے۔ آرمی چیف کو امریکہ بلایا جاتا ہے، یہاں آکر ان سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، جیسے ملک کے حکمران وہ ہیں۔ انہیں کام تو نہیں کرنا چاہیے، وہ business میں involve ہو رہے ہیں، Askari Bank and different other schemes میں وہ گھپلے کر رہے ہیں، جیسے DHA Valley میں

باسٹھ ارب روپے کا ایک نیا scam آیا ہے اور ملک ریاض کے جھگڑا کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ میرے خیال میں آرمی کے رہنے کی دو جگہیں ہوتی ہیں، امن کا زمانہ ہو تو یہ بیرکوں میں بیٹھیں اور اگر جنگ ہو تو سرحد پر ہوں۔ یہ ہماری جو safety کر رہے ہیں اس کا حال یہ ہے مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ 'کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا'۔ ان لوگوں نے ہماری کیا حفاظت کرنی ہے، یہ لوگ آدھا ملک 1971 میں گنوا بیٹھے، اس کے بعد آج تک ایک انچ زمین کسی ملک سے نہیں لے سکے، جب بھی کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہوئی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دے کر ہی سانس لیا ہے۔

Mr. Muhammad Waqar: Point of Order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

جناب محمد وقار: میری درخواست ہے کہ ممبران اداروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کریں تو بہتر ہو گا کیونکہ آرمی ایک قابل احترام ادارہ ہے۔

جناب کاشف یوسف بدر: دوسری بات یہ کہ DHA وغیرہ کو Auditor General of Pakistan کے under لایا جائے تو اس کے لیے already Military Audit کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو میرے خیال میں اسے زیادہ بہتر طریقے سے strengthen کیا جانا چاہیے اور اس کی طرف زیادتی توجہ دینی چاہیے اس طرح اس کے ساتھ Auditor General of Pakistan والی بات بھی ہو گی کیونکہ یہ اتنی feasible نظر نہیں آ رہی۔

Mr. Gohar Zaman: Point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

جناب گوہر زمان: میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ چیز clear کرنے کی کوشش کی تھی کہ military کی performance اور جو in service Military ہے، ان کا business سے تعلق نہیں ہے تو kindly اگر ممبران اس بات کو focus کریں کہ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو گا۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی ٹھیک ہے۔ جناب تیمور شاہ صاحب۔

جناب محمد تیمور شاہ: جناب سپیکر! یہ resolution جو ایوان میں پیش کی گئی ہے میں اس میں amendment لانا چاہتا ہوں as far as the wording of the resolution is concerned because یہ ادارے DHA and Fauji Foundation میں چونکہ Standing Committee on Defence کا ممبر بھی ہوں اور اس مرتبہ ہمارا topic ہی defence budget, audit and defence production تھا۔ Defence budget کا Auditor General کے پاس جاتا ہے جبکہ DHA and Fauji Foundation کی Security Exchange Commission of Pakistan کے پاس باقاعدہ registration ہوئی ہے۔ اگر اس resolution کو movers کی طرف سے amend کر دیا جائے، یہاں فوج کے بجٹ پر civilian government کے control کی بات ہو رہی ہے، ان دو اداروں کا Auditor General of Pakistan کے پاس بھی audit ہوتا ہے اور SECP کے پاس ان کی باقاعدہ registration ہے، ان کے assets declaration ہے اور ان کی کافی اچھی tax paying capacity بھی ہے۔ and they are loyal tax payers of the country. بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، میں کسی کی بات کو negate نہیں کر رہا، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آرمی کی extra curriculum activities کو monitor کرنے کے لیے civil control یقیناً آنا چاہیے جس کے لیے اس resolution میں movers

کوئی amendment لے آئیں تو بہتر ہو گا لیکن اس میں amendment آنی چاہیے کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے relate نہیں کر رہی۔

میڈم ڈپٹی سپیکر! جناب محمد عتیق صاحب۔

جناب محمد عتیق: شکریہ میڈم سپیکر! میں اس میں کچھ چیزوں کی clarification کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں autonomous body کے طور پر consider کی جاتی ہیں یہ بھی according to 1973 Constitution کے تحت ہے۔ جس طرح آرمی ایک autonomous ادارہ ہے، اسی طرح OPF, PIA, PTV and Radio کے ادارے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی housing societies بنا سکیں اور اپنے ملازمین اور پنشنرز کی welfare کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم یہاں اس پر focus نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا روپیہ اس پر لگا رہے ہیں یا کیسے لگا رہے ہیں؟ اس پر ضرور focus ہو سکتا ہے کہ ان کی hegemony اور جو بھی democratic government آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آرمی کے بجٹ کو allocate کرتی ہے۔ پہلے ان کا حصہ علیحدہ کیا جاتا ہے پھر وہ دوسری practices کی طرف آتی ہے لیکن being a democratic country یا جو emerging democracies ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ civilians کو اس کی جتنی بھی organizations or governing bodies کام کر رہی ہیں اس میں equal representation ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ Auditor General of Pakistan کو سب کا audit کرنا چاہیے لیکن being a autonomous body وہ خود audit کرے گی۔ میں یہاں ایک اور چیز consider کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں mixed economy ہے اگر ہم USA کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر capital economy ہے، free market ہے، وہاں پر اگر ایک شخص جہاز بنا رہا ہے تو وہ بنا سکتا ہے، وہی ٹینک بھی بنائے گا اور دوسری چیز بھی بنائے گا۔ ان کے پاس صرف atomic or NASA کا کام control میں رہے گا باقی وہ free market میں دیں گے۔ Free market میں آرمی کا بجٹ خود بخود minimum ہو جائے گا۔ جب آپ کوئی چیز x, y, z سے لیں گے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا ہے چونکہ ہم خود چیز بنا رہے ہیں یا borrow کر رہے ہیں اس لیے اس کا بجٹ budget heavy ہو جاتا ہے اور وہ other sectors پر dominate کر جاتا ہے۔ We need to understand کہ ہمارے ہاں جو mixed economy ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو free capital کریں گے کہ آرمی کے equipments and other things ہم x, y, z سے خریدیں گے تو پھر یہ separate ہو جائے گا، اس کا audit کرنا بھی آسان ہو گا being a democratic country اس کے اندر other institutions ہیں، ہم ان کو بھی regard کر سکیں گے۔ بہر حال ان کی hegemony کو کم کیا جائے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر! شکریہ۔ محترم جمال جامی صاحب۔

جناب جمال نصیر جامی: شکریہ میڈم سپیکر! یہاں آرمی کے business میں involve ہونے کے حوالے سے resolution پیش کی گئی ہے جو کہ ایک بہترین resolution ہے۔ آرمی کے مختلف قسم کے businesses ہیں for example Askari Bank, DHA and Fauji Foundation, ادارے بھی business ہیں کیونکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، میرے خیال میں وہاں PAF, NUST or Bahria University کے fee structures and packages کی وجہ سے ان میں کسی غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی

طرح جو cantonment areas میں خاص طور پر کراچی کے علاقے، یہ بلدیاتی اور cantonment کے حوالے سے بہت بڑا clash رہا اور اس حوالے سے کراچی کا پورا بلدیاتی نظام derail ہوتا رہا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ میں خود Cantonment Board Faisal میں رہتا ہوں، صرف cantonment board میں گلستان جوہر کا وہ حصہ آتا ہے جہاں shopping malls and industrial areas ہیں تاکہ تمام ٹیکس cantonment لے جائے اور بلدیہ صرف سڑکیں، گٹر لائنیں صحیح کرنے پر اپنا دھیان رکھے۔ آرمی نے corruption کے بزنس کے علاوہ بہت سارے ذرائع بنا لیے ہیں۔ Civil service میں ہم بہت tough competitive exam دے کر civilian job میں جاتے ہیں اور آرمی والے وہاں سے direct depute ہو کر آ جاتے ہیں۔

جناب والا! اس کے علاوہ آرمی سے retired ہونے کے بعد جنرلوں نے during service جو مراعات ہوتی ہیں وہ جاری رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، General Tyre Company اس کے علاوہ Mechanized Corporation of Pakistan ادارہ ہوتا تھا جو دنیا کے بہترین اداروں میں شمار ہوتا تھا جس نے گٹو بیراج کی مرمت بھی کی تھی۔ اس ادارے میں جو جنرل صاحب اس کے سات آٹھ سال سربراہ رہے، انہوں نے جاتے ہوئے اس کی تباہی اور بربادی کو show کیا اور اس کی تمام مشینری خرید کر اس کو بند کروا کر اپنا ایک private ادارہ قائم کر لیا اور اس طرح 70s میں پاکستان کا ایک بہترین ادارہ تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام تباہ شدہ civilian اداروں کی بھی تاریخ دیکھی جائے جیسے پاکستان اسٹیل اور پاکستان ریلویز تو ان میں زیادہ عرصہ جنرل صاحبان as a Chairman or head of the Department رہے ہیں۔

جناب سپیکر! میں way forward کے طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہاں ایک تجویز آئی، بہتر یہی ہو گا کہ آرمی سے related جو businesses ہو سکتے ہیں مثلاً weapons etc., ان کی جو مراعات ہیں ان کو ختم کیا جائے یعنی لوگوں کو civilian and army میں ایک discrimination محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو، اگر وہ open merit پر business کریں لیکن یہ کہ Fauji Fertilizer کی کیس بند نہیں ہو گی باقی پورے پاکستان کی کیس بند ہو جائے گی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر! شکریہ۔ محترم وقار صاحب۔

جناب محمد وقار: شکریہ میڈم سپیکر! میں پہلے کچھ غلط فہمیاں دور کرنا چاہوں گا۔ میرے ایک بھائی نے کھڑے ہو کر بار بار کہا کہ یہ enterprises military personnel owned ہیں، یہ Military کے under نہیں آتے۔ یہ direct military owned enterprises ہیں جن کی beneficiary بھی آرمی ہے اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتا آیا ہے کیونکہ ہم ایک under develop ملک ہیں، ہم اپنے پورے defence budget کی funding نہیں کر سکتے اسی لیے آرمی کو funding sources کو تھوڑا سا diversify کرنے کے لیے بزنس میں آنا پڑتا ہے۔ میں ایک دوسری غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی state owned enterprises ہیں وہ ابھی تک loss making ہیں but military owned enterprises کی performance ابھی تک remarkable چل رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ Monopoly ہے، capital availability ہے یا influence ہے لیکن ان کی performance ابھی تک کافی اچھی جا رہی ہے۔ میں military budget کی accountability کی بات میں تھوڑا سا clear نہیں ہوں کہ enterprises Stock mover military budget کی accountability کی بات کر رہے ہیں یا enterprises کی کیونکہ

Exchange میں enlisted ہیں اور وہ اس کے rules and regulations کو follow کرتے ہیں، ان کے internal and external audit بھی ہوتے ہیں۔ اگر military budget کے audit کی بات کی جائے تو میرے خیال سے ایک focus resolution بن جائے گی۔

Madam Deputy Speaker: Mr. Ahmed Nomair Farooq *Sahib*, is there any amendment you would like to propose?

Mr. Ahmed Nomair Farooq: Madam Speaker! We are not proposing an amendment because there is a department in the name of Pakistan Military Accounts Department, who is responsible for internal audit of the all military organizations and the Auditor General of Pakistan and the Ministry of Defence is only given the information about the allocations which are about the military defence budget. They are just shown that this amount of budget is allocated to these businesses and this amount of budget is allocated to further purchase of equipments. What happens to that allocated amount, the internal audit of the organizations is carried out by the Pakistan Military Accounts Department and Auditor General of Pakistan has nothing to do about that. So, we are proposing that internal audit should also be brought into the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan.

Secondly, we are talking about the audit of these organizations. We are not talking about the audit of the military budget. We are leaving that with the military because it is an autonomous body, so we are not proposing any amendment.

Madam Deputy Speaker: The honourable Leader of the Opposition.

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): شکریہ میڈم سپیکر! ہمارا ایک ادارہ ہے جس میں ہماری registered corporations ہوتی ہیں اور ان میں three categories ہیں، sole proprietorship، partnership اور اس کے بعد corporations ہیں، ان کے لیے SECP کی باقاعدہ established ہے اور اس کی guidelines ان کی website پر موجود ہیں اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع بن گیا ہے کہ I have been through all those regulations تو اس میں confusion ہے اور جب تک وہ clear نہیں ہوتی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تب تک اس resolution کو یا تو کمیٹی کو refer کر دیا جائے یا movers اس کی clarifications with facts دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کا internal audit is compulsory, mandatory ہے، دو باتیں ہوتی ہیں memorandum of association ہوتا ہے which is consider as a constitution of the company اور ایک article of association ہوتا ہے جو کہ کسی بھی organizations کے by laws ہوتے ہیں۔ جو internal audit ہے it is conducted on the basis of article of association اور external audit جو of the capital depend کرتا ہے کہ کتنا capital اس میں invest کیا گیا ہے اور اس کی دو بنیادیں ہیں۔ تین ملین سے زیادہ ہو تو اس کے chartered accountants audit کرنے کے responsible ہوتے ہیں۔ جب تک یہ clarification نہیں دیتے کہ internal audit is something else وہ جو بھی کرے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے لیکن SECP یہ بات ensure کراتا ہے کہ جو auditor ہوتے ہیں، ان کی standards and of Poor's کی weightings ہوتی ہے، یہ international raters ہیں، یہ rate کرتے ہیں، سید سادات حیدر اور M/s Ferguson etc., یہ independent consultancy firms ہیں اور یہ different organizations کے panel پر ہوتی ہیں اور periodically یہ ان کا audit کرتی ہیں۔ یہ public limited

company ہوتی ہے، اس کے لیے ایک quarter میں audit کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو اپنے annual accounts after the year end four months میں general meeting میں present کرنے ہوتے ہیں۔ اس چیز کی clarification کہ military in businesses میں involve ہے یا نہیں تو وہ بات clear ہونی چاہیے کہ وہ جس کام کے لیے established ہیں their first top most priority ہے وہ ہونی چاہیے کہ وہ national security provide کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں they must be under the umbrella of civil control اور پارلیمنٹ کی supremacy ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے اور oversight کر سکے۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: The honourable Prime Minister.

جناب محمد ہاشم عظیم (وزیر اعظم یوتھ پارلیمنٹ): شکریہ سپیکر صاحبہ! میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ادارے کا جو Standard Operating Procedure ہوتا ہے اسے اس کے مطابق function and operate کرنا چاہیے۔ اس کو book practically work by کرنا چاہیے جو کہ obviously security provide کرنا ہے، defence اور دوسری چیزیں ہیں۔ Extra curriculum activities میں ان کی interference ہے، وہ جس بھی چیز کے لیے ہے لیکن اس کو discourage کرنا چاہیے because they should focus on their expertise and develop their expenditures in the relevant field, prescribe کرنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس resolution کا مسودہ ہے کہ it should be brought under the Auditor General of Pakistan, we would be supporting that jurisdiction of Auditor General of Pakistan، کیونکہ Pakistan کی transparency ensure کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ effective اور ضروری ہے کیونکہ اس سے باقی اداروں میں private ادارے audit کرتے ہیں جیسے انہوں نے M/s Ferguson کی بات کی تو I have the experience of working in M/s Ferguson، ان کے Board of Directors کے ممبران کو internal audit کی summaries کی پوری report چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بہترین چیز یہ ہوتی ہے جسے میں ایوان کے ساتھ share کرنا چاہوں گا کہ ایک تو transparency ensure ہے، دوسری چیز جو ممبران ہوتے ہیں، ان میں ایک sense آتا ہے کہ اس system کو کس طرح regularize کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بہتر کیا جاسکتا ہے؟ اس میں بہت زبردست recommendations آتی ہیں کہ ہر step میں آپ کیا کیا چیز ensure کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی cost کو بھی cut کر سکیں اور efficient steps evolve کر سکیں۔ I think it should be brought under the jurisdiction of the Auditor General of Pakistan and we are supporting that. Thank you.

Madam Deputy Speaker: There is a little confusion on this point, some of the members who are also confused here

یا تو آپ اس کی وضاحت کریں یا we should refer it to the Committee.

جناب احمد نمیر فاروق: میڈم سپیکر! اس کی وضاحت یہی ہے کہ SECP میں سارے businesses register ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بات کہ external auditors کی appointment ہوتی ہے، اس میں finance سے جو appointment ہوتی ہے وہ military officials کی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی یہ بات بتائی تھی کہ Military Accounts Department کا جو Act ہے جس کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے

کہ Auditor General of Pakistan کی صرف advice کرنے کی حیثیت ہے، مطلب وہ finance سے نہیں ہے،
finance سے آخر میں صرف military officials کی ہی ہوتی ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ Auditor General of
Pakistan کو absolute right دیا جائے کہ internal audit کے لیے جو بھی mechanism ہو وہ appoint کرے۔

Mr. Muhamad Taimour Shah: Madam Speaker! As a member I would like to put forward an
amendment

اگر انہوں نے objection کر دی تو پھر یہ چیز آپ کی discretion پر آ جاتی ہے کہ اگر آپ amendment کروانا
چاہتی ہیں۔ میڈم سپیکر! ان کی resolution ہے کہ

“This House is of the opinion that the involvement of military in businesses should be strongly
discouraged and legislation should be done in this regard, moreover organizations such as DHA
and Fauji Foundation should be brought under the jurisdiction of Auditor General of Pakistan”.

اس میں تیسری لائن میں یہ چیز کر دیں کہ
‘moreover organizations working under the preview of the Armed Forces should be audited or the personnel who audit these organizations should be appointed by the
Auditor General of Pakistan’ یہ resolution کے movers ہیں اور اگر یہ ہی amend کر دیں تو زیادہ اچھی بات
ہو گی، اس میں کوئی ego والی بات تو نہیں ہے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: آپ اسے پڑھ دیں so we can take opinion on it.

Mr. Muhammad Taimour Shah: “This House is of the opinion that the involvement of military in
businesses should be strongly discouraged and legislation should be done in this regard, moreover
organizations working under the preview of the Armed Forces of Pakistan should be audited from the
Auditor General of Pakistan and power of the Auditor General of Pakistan should be increased in such
extent”.

Madam Deputy Speaker: Now I put the resolution to the House.

(The motion was carried)

Madam Deputy Speaker: Item No. 8. I would request Ms Anum Zia, Ms Sahar Iqbal, Ms Rabiya
Shamim, Mr. Usama Mehmood, Mr. Hamid Chaudhry, Mr. Zafar Siddique and Mr. Siraj Din Memon to
move the resolution. Ms Anum Zia kindly read out the resolution.

Ms. Anum Zia: Thank you very much. The resolution is that:

“This House is of the opinion that organic methods for agricultural production should be promoted
in Pakistan through subsidies in order to increase the annual export of agricultural products”.

اب point یہ ہے کہ ہم ہر وقت روٹے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی economic development نہیں ہو رہی، ہم لوگوں
کو options ملتے ہیں لیکن ہم ان options کو accept نہیں کرتے۔ Then the problem is کہ ہمارے پاس ہر
solution ہے کہ اگر ہم gross root پر جائیں۔ Organic agriculture is one of the solution for economic
development in Pakistan. Now the thing is that what is the difference between organic agriculture and the
conventional agriculture that is taking place? Organic agriculture is basically a natural kind of agriculture
ہے جو کافی عرصے سے پاکستان میں ہوتی تھی۔ 1960 میں green revolution آئی جب ٹریکٹر وغیرہ بننا
شروع ہوئے، امریکہ نے ہم لوگوں کو ٹریکٹرز دیے، بیج دیے، انہوں نے fertilizer introduce کیے and we

started coming up with this conventional agriculture, dependent ہو گئے کہ اب ہمارے genetically modified seeds کی companies پاکستان میں آکر ہمیں ملازمت دے رہی ہیں کہ ہم انہی کے بیج وہیں سے لیں۔ Problem یہ ہے کہ nearby future ہم لوگ ان پر اتنا depend کرنے لگ جائیں گے we are solely dependent on it تو اگر وہ ہمیں بیج دینا بند کر دیں تو because these seeds updated and protected. because ان بیجوں سے پہلے جس طرح عام agriculture میں ہوتا تھا کہ بیج کی production ہوتی تھی اور جو فصل بنتی تھی اسی سے دوبارہ بیج مل جاتے تھے جنہیں ہم دوبارہ استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ یہ والے seeds use کرتے ہیں تو آپ کو future میں دوبارہ بیج نہیں ملتے، ان کی productivity ختم ہو جاتی ہے۔ In short, dependence on these seeds genetically modified seeds (GM) as you have heard about BT cotton in stuff then productivity is ok, conventional بیج کی productivity بہت زیادہ کم ہے۔ اگر آپ کے پاس seeds ہیں، otherwise no productivity in the second or third phase. Now coming to effect, what are the basic factors of organic agriculture, agriculture

ہمارے GDP کا major portion ہے، it's a big chunk of it. ہم لوگ اپنی agriculture میں بجائے کہ new developments کریں، ہم یہی روتے رہتے ہیں کہ ہماری industries ڈوب رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہماری basic strength agriculture ہم کبھی اس میں options نہیں ڈھونڈتے۔ Organic agriculture کی productivity 34% کم ہے as compared to the other kind of agriculture, but the problem is کہ جب آپ organic agriculture کرتے ہیں تو اس کی productivity آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی productivity کے اور benefits میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس relatively زیادہ variety ہوتی ہے۔ اس پر fertilizer میں pesticides use ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے quality بھی deteriorate کر رہی ہے۔

میرا اگلا point about the economic development کہ fertilizer companies, tractor companies ان میں جو بھی چیزیں use ہوتی ہیں یہ سب کچھ باہر سے manufacture ہو کر آتا ہے، ہم لوگ through export جتنے پیسے لیتے ہیں، وہی ان کو export more things from them to واپس دے دیتے ہیں تو ہمیں کہاں benefit ہو رہا ہے؟ As a result of organic agricultural ہماری productivity بھی کم ہوتی ہے لیکن وہ ہماری productivity ہوتی ہے۔

جناب سپیکر! اب میں export کی طرف اؤں گی جو میری resolution کا main part ہے کہ ہمیں annual export of agricultural products کو بڑھانا چاہیے۔ انڈیا، تنزانیہ، افریقہ even Ethiopia in Africa, they are exporting organic products on a very large scale. ان کی major economic development اس پر based ہے تو ہم پاکستان میں on organic agriculture میں بجائے کہ نئی researches and developments کریں we look for subsidies and stuff like that.

میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ organic agriculture کی جو زمین ہوتی ہے، ابھی ہماری جس line پر agriculture ہو رہی ہے، اس پر اب organic agriculture نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ fertilizer, pesticides organic agriculture deteriorate کر گئی ہے۔ Still Asia میں nine hundred thousand hector land ہے، جس پر organic agriculture ہو سکتی ہے۔ ہم اسے urban development کے through utilize نہیں کر رہے بلکہ ہم اسے اور خراب کر رہے

We should utilize that and despite of the fact less productivity but that productivity would be ours. If -ہیں۔
economic development and GDP rate تو we start exporting it Pakistan کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا۔ شکر یہ۔
میڈم ڈپٹی سپیکر! شکر یہ۔ محترمہ سحر اقبال۔

Ms Sehar Iqbal: I just want to keep it short and simple, why I think that organic agriculture should be promoted in Pakistan because it's better for health, it's better for our environment and it's better for our economy. How better for health?

which is natural food ملتا ہے اور pesticides use نہیں کرتے تو ہمیں organic products use کرتے ہیں اور pesticides use نہیں کرتے تو ہمیں natural food ملتا ہے۔
good for our health as well and better for environment is that the use of pesticides definitely it's good for our harm ہو رہا ہے، we know that. اگر ہم اس کو less use کریں گے تو definitely it's good for our environment and how it is better for our economy?
fertilizer پر ہمارے جتنے بھی پیسے لگ رہے ہیں it will reduce the amount, secondly لوگ زیادہ کام کریں گے اور unemployment کو reduce کرے گا۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ رابعہ شمیم۔

محترمہ رابعہ شمیم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ اگر ہم اپنے ملک میں organic farming کو جتنا بھی promote کریں گے تو اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہو گا کیونکہ ہمارے ملک میں جس طرح ہر چیز کی کمی ہے، یہاں سیالکوٹ، فیصل آباد، اندرون سندھ جو best rice producers ہیں، یہ export ہوتا ہے اس کے باوجود ہمارے ملک میں چیزوں کی قلت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے agriculture institutes بن گئے ہیں but they have lack of programmes اگر ہم ان کو زیادہ scope دیں اور awareness دیں تو اس طرح زیادہ اچھی agricultural products produce ہو سکتی ہیں۔ Organic farming might be able to increase our organic trade۔
products which mutually constitutes of green house spices, nuts and fruits. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر! جناب اسامہ محمود صاحب۔

جناب اسامہ محمود: شکر یہ سپیکر صاحبہ! میں چند points پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے اور دنیا میں جو studies ہوتی ہیں ان میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ basic raw material سے آتا ہے؟ اس کے بعد دوسری activities آتی ہیں۔ پاکستان کا شمار agriculture productivity کے ممالک میں ہوتا ہے جیسے Australia, USA, Russia, China and other countries۔ ہمارے ملک میں wheat, rice, sugarcane, Tobacco and Cotton یہ cash crops ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں بھی ہمارے ملک کی economy کو boost ملتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی امید ہے لیکن unfortunately ہم لوگ ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں جیسے میری colleague Ms Anum نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ماضی میں ignore کیا۔ ہم لوگوں نے totally conventional system پر depend کیا، ہم نے organic system کو چھوڑ دیا جس کی وجہ ہماری جتنی بھی زمین ہے اب ہم bound ہیں ہم نے اسے ہی استعمال کرنا ہے، otherwise organic system پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ماضی میں ہم سے ہوئیں۔ ہمیں اب بھی یہ چیز start کر دینی چاہیے، اگر وہ ہماری supply بند کر دیتے ہیں تو ہماری جو economy agriculture پر depend کرتی ہے، ہمیں

اس میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرانے system کی طرف دوبارہ آئیں اور دوسرے ممالک پر dependency کو کم کریں اور اپنی export پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ ہم جو productivity اپنے resources سے پیدا کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ خودکفیل ہو سکتے ہیں as compared to dependence on other countries. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب حامد چوہدری صاحب۔

جناب محمد حامد چوہدری: میڈم سپیکر! میں سب سے پہلے کیوبا کی مثال دوں گا، کیوبا اس وقت organic farming سے آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے conventional طریقے use کر رہے ہیں کہ وہ ٹریکٹر کی جگہ bulls and axe use کر رہے ہیں۔ وہ soil fertile manual use کر رہے ہیں There industries prepare manual to make their farms more fertile جو پاکستان میں بہت پہلے use ہوتے تھے اب نہیں ہو رہے، وہی طریقہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ organically produced oranges کی قیمت اگر international market میں 9US\$ per dozen ہے اور اگر وہ non-organic food ہے تو وہ آپ کو 4US\$ per dozen میں پڑے گا، یہ تقریباً three to four time increase ہے۔ اگر آپ کو اپنی export بڑھانی ہے اور اس سے revenue generate کرنا ہے تو آپ کو اپنے food کی quality بہتر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ organically prepared food export کریں گے تو آپ کو زیادہ revenue ملے گا کیونکہ اس کی زیادہ قدر کی جائے گی لیکن اس سلسلے میں آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک International Organic Certifying Agency ہے، آپ کو اس کے standards کو maintain کرنا پڑے گا، آپ کو strict quality checking کرنا پڑے گی تاکہ آپ جو organic food بنا رہے ہیں وہ international standard کی ہو۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 16 million hector potential land ہے جس کو ہم organic farming کے لیے use کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا benefits ہیں؟ Organic food آپ کی high nutritious ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق organically produced food میں 27% سے زیادہ وٹامن سی ہے، as compared to industrially prepared food. اس کے علاوہ یہ environmental friendly اور آپ کو capacity building کے موقع فراہم کرتی ہے کیونکہ اس کی packing, harvesting, planting کے لیے آپ کو technical assistance چاہیے جو کہ آپ کے لیے new avenues generate کرے گی، آپ کی economy بڑھے گی، new jobs create ہوں گی اور آپ کی illiterate population کو تھوڑا سا skill دے کر زیادہ کام لے سکتے ہیں۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب ظفر صدیق صاحب۔

جناب محمد ظفر صدیق: جناب سپیکر! میں Organic farming کے فائدے اور importance پر بات نہیں کروں گا، میں cost and benefit پر بات کروں گا۔ جناب والا! پاکستان میں زیادہ تر کسان organic farming کی بجائے inorganic farming کو prefer کرتے ہیں کیونکہ اس کی production زیادہ ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ benefit organic farming میں زیادہ ہے۔ شیخوپورہ ضلع میں 2010 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں two sample use ہوئے تھے، ایک ایکڑ میں organic method سے گندم اگائی گئی تھی اور دوسرے میں inorganic method کے ذریعے گندم اگائی گئی تھی، اس میں benefit cost 1.08 ratio تھا یعنی cost کے مقابلے

میں 108% profit ہوتا ہے، یعنی اگر آپ سو روپے cost کریں گے تو آپ ایک سو آٹھ روپے منافع کمائیں گے جبکہ inorganic farming میں اگر آپ کی 100 cost ہے تو آپ ایک سو ایک روپے منافع کمائیں گے یعنی اگر آپ organic and inorganic farming میں سو روپے invest کرتے ہیں تو آپ organic میں ایک سو آٹھ روپے کماتے ہیں جبکہ inorganic میں ایک سو ایک روپے کماتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ organic farming میں cost کے مقابلے میں inorganic farming سے زیادہ منافع ہے۔

جناب سپیکر! میں گندم کی کاشت کی جو main head ہے اس کی cost بتانا چاہوں گا۔ Organic farming میں 765 Rs. cost of seeds per acre جبکہ inorganic میں 960 Rs. ہے۔ Organic farming میں جو fertilizer use ہوتے ہیں، وہ چھتیس سو روپے کے use ہوتے ہیں جبکہ inorganic farming میں پینسٹھ سو روپے کے استعمال ہوتے ہیں۔ Irrigation کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اگر وہاں ٹیوب ویل استعمال کیا جائے تو اس میں 1336 Rs. کی cost آئے گی جبکہ inorganic میں 1700 Rs. کی cost آئے گی۔ Organic farming میں marketing and transportation پر فی ایکڑ 970 Rs. cost آئے گی اور inorganic میں 1137 Rs. cost آئے گی یعنی inorganic میں total cost 16650 Rs. ہے جبکہ organic میں 13270 Rs. ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر جتنی رقم inorganic farming میں چار ایکڑ کاشت کرنے پر خرچ ہوتی ہے جبکہ اسی رقم سے آپ organic farming میں پانچ ایکڑ کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی production organic farming میں زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ممبر نے بات کی کہ جس زمین پر inorganic farming ہو جاتی ہے وہاں پر organic farming نہیں ہو سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے organic farming کرنی کہاں پر ہے؟ Basically صرف پنجاب میں 28% زمین غیر آباد ہے، ہم اس کو آباد کریں اور اگر ہم اس پر کاشت کریں تو ہماری production بھی بڑھے گی اور جب production بڑھے گی تو ہماری export بھی بڑھے گی۔ شکریہ۔

Madam Deputy Speaker: Mr. Siraj Din Memon Sahib.

جناب سراج دین میمن: شکریہ میڈم سپیکر! میرے colleagues نے اس پر کافی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ میں یہاں صرف دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ پنجاب کے ضلع میلسی میں کچھ سال پہلے agriculture land استعمال نہیں ہو رہی تھی تو وہاں کے زمینداروں نے inorganic کے بجائے organic method زیادہ اپنایا تو ultimately یہ ہوا کہ میلسی آج تک پورے پاکستان میں تمام districts میں top district شمار ہوتا ہے جہاں پر agricultural productivity زیادہ ہے۔ میرا تعلق سندھ سے ہے، سندھ کی ہزاروں ایکڑ زمین سیم و تھور کا شکار ہے اور ہر سال کئی سو ایکڑ زمین سیم و تھور کا شکار ہو رہی ہے۔ اس طرح ہماری agricultural productivity میں کمی آرہی ہے اور اس طرح GDP میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم نے اس useless زمین کو استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے واحد طریقہ organic method ہے۔ پاکستان میں organic method کو promote ہونا چاہیے تاکہ جو زمین سیم و تھور کا شکار ہے وہ بھی agriculture کا حصہ بن جائے اور اس طرح ہمارے GDP میں significant اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب توصیف عباسی صاحب۔

جناب توصیف احمد عباسی: شکریہ میڈم سپیکر! میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ organic agriculture basically depends techniques on rotation of crops and rotation of crops آپ sequential season میں مختلف قسم کی فصل اگا رہے ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں پنجاب کا ایک کسان ہوں، اگر میں وہاں گندم اگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک season میں گندم اگاؤں گا، اگلے میں گوبھی اگاؤں گا، پھر میں آلو اگاؤں گا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں organic میں جا کر میں پھر چوتھے phase میں گندم پر آؤں۔ میڈم سپیکر! ایک زرعی ملک پاکستان جو گندم پر depend کرتا ہے اور وہاں اگر آپ ایک season میں پندرہ سے بیس لاکھ ٹن کی گندم کی کمی ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ گندم پر depend نہیں کر رہے، آپ کے پاس بہت زمین ہے، آپ کے پاس ہر مرتبہ export کرنے کے لیے بیس پچیس لاکھ ٹن گندم ہوتی ہے، اگر آپ afford کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ try کریں کہ اس مرتبہ کسی اور چیز کو اگائیں۔ میں ظفر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی پنجاب کی جو زمین بخر پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس پر یہ experience کرنا چاہیں تو یہ چیز بہتر رہے گی کہ وہ useless زمین آپ کے استعمال میں بھی آسکتی ہے۔ برائے مہربانی اس زمین پر تجربے نہ کریں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر! محترمہ انم محسن صاحبہ۔

محترمہ انم محسن: شکریہ میڈم سپیکر! بنیادی طور پر یہاں سب نے بات کی ہے، کچھ لوگوں نے cost and benefit analysis بھی کر دیے ہیں، that is so nice کہ انہوں نے economy کا دھیان کیا اور بار بار GDP کی بات کی، but there are other things، محترمہ انم ضیاء جو mover ہیں، انہوں نے ایک چیز جو highlight کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو organic agricultural production ہونی چاہیے جو 1960s کے بعد سے trends change ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں؟ اگر وہ ہوئے ہیں اور آپ کے agriculture پر کیا affects پڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ if we look at Pakistan's economy indeed arisen agrarian economy and fine, but we are having a lot of environmental issues and health issues because of these fertilizers. The thing is that we can not only see the economic comparative advantage ہو گا کہ ہم اگر ہماری prospective کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، organic اور farming پر زیادہ spend کریں تو اس کی quality بڑھے گی اور میرے خیال سے حامد چوہدری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ quality بھی ہونی چاہیے، صرف export کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ export بہت زیادہ ہو۔ So, overall benefit کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ نہ دیکھیں کہ cost کتنی آ رہی ہے، اس کے برے اثرات بھی پڑیں گے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم عمر ریاض صاحب۔

Mr. Muhammad Umar Riaz: Thank you Madam Speaker. I firmly believe that organic agriculture if effectively used can definitely add to the annual export of the agricultural products to other countries because we have millions of hectares of cultivatable land in Pakistan which can be used effectively for

organic agricultural products. We can definitely come to know that World Food Organization has conducted a survey and the report is that all the products which are the outcome of the organic agricultural are certainly environment friendly in many ways. They don't do much harm as when we compared to the conventional use of the agriculture the environment does get factor in one or the other. When we comparatively analyze the cost and benefit analysis, we will come to know that the profit outcome is certainly higher in this sort of agriculture as compared to conventional sort of agriculture. As it has already been pointed out that the quality of food is something which has to be maintained. When we talked about and linked the organic agriculture with the exports of the country, we need to understand exports always get an increase if we maintained the quality and the standard in accordance with the international standards and we will have to do that. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب حماد ملک صاحب۔

جناب محمد حماد ملک: میڈم سپیکر! مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کا organic and inorganic سے مطلب کیا تھا؟ اگر یہ organic agriculture کو use of genetically modified seed کے version میں استعمال کر رہے ہیں تو میں انہیں اس حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ پرانی traditional باتوں پر واپس آنا اچھا لگتا ہے، feasible ہوتا ہے لیکن in Pakistan we have got 20 crore mouth to feed. یہ جو organic and inorganic method کی بات کر رہے ہیں، میں چونکہ basically ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں اس بات کا clearly پتا ہے کہ پرانے طریقے استعمال کر کے آپ ایک ایکڑ سے بارہ سے سولہ من گندم حاصل کرتے ہیں لیکن اگر آپ اچھا seed استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پیداوار چالیس من کے قریب پہنچ جاتی ہے۔

میڈم سپیکر! ہماری University of Agricultural Faisalabad نے genetically modified ایسا seed تیار کیا ہے جو صرف ایک مرتبہ کا پانی مانگتا ہے اور گندم کی پوری فصل تیار ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے نارن کاغان میں disease free آلو پیدا ہو رہا ہے جو کہ totally export کیا جا رہا ہے، یہ ساری genetically modified چیزیں ہیں۔ اس وقت ساری دنیا agricultural revolution کی طرف جا رہی ہے اور اگر ہم ان سے lack behind کر رہے ہیں اور ہم ایسی طرف چلے جائیں کہ ہم quality food prepare کریں تو یہ ہمارے لیے feasible نہیں ہے۔ جب ایک غریب کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہو گا اور ہم اسے کہیں کہ ہم تمہارے لیے ڈبل روٹی تیار کر رہے ہیں تو یہ چیز feasible نہیں ہے۔ میں اس resolution کی قدرے مخالفت ہی کروں گا کہ ہم لوگ اس وقت ایسے بحران کا شکار ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں all over the world food crisis ہے، آپ کا سارا افریقہ قحط زدہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پرانے طریقوں پر آئیں، بے شک وہ quality food ہو تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ قحط زدہ علاقوں کے غریب مر جائیں؟ اس پر کل بھی بات ہوئی تھی اور ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ غریب آدمی کے لیے ہمارے پاس کوئی policy نہیں ہے، اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی کی continuation ہے۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمر رضا صاحب۔

جناب عمر رضا: میڈم سپیکر! جو resolution پیش کی گئی ہے، میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا confirm کر دوں کہ پنجاب میں Punjab Seed Corporation میں موجود ہے جو seed کی quality بھی check کرتی

ہے اور وہ نئے seed بنا کر کسانوں کو بھی فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ میرے بھائیوں نے بات کی ہے کہ پنجاب میں جو زمین پڑی ہے، اس پر دوبارہ کاشت کیاجائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں پہلے سے زیرکاشت زمین کے لیے پانی اور کھاد موجود نہیں ہے تو آپ نئی زمین کو کیسے آباد کریں گے؟ اگر ہم بیلوں کی مدد سے دوبارہ ہل چلائیں گے تو وقت کا ضیاع ہو گا کیونکہ اگر ایک دن میں کسان ٹریکٹر کی مدد سے سات یا آٹھ ایکڑ پر ہل چلاتا ہے تو وہ بیلوں کی مدد سے سات دنوں میں ایک ایکڑ پر ہل چلائے گا اور اس طرح بہت کم کاشت ہو گی۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف باتیں کرنے سے سب کچھ حل نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں کوئی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے ایوان سے میری گزارش ہے کہ اس پر clearly debate کرائی جائے۔ میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ

حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے

خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب گوہر زمان صاحب۔

جناب گو زمان: شکر یہ میڈم سپیکر! یہ بہت ہی بچگانہ قسم کی resolution ہے۔

Madam Deputy Speaker: Please avoid passing derogatory remarks and give your analysis.

Mr. Gohar Zaman: O.K but this is not derogatory remarks. Now we have two things.

ایک آپ کے ہاتھ میں economy اور دوسرے ہاتھ میں environment ہے۔ آپ اپنے ملک کی condition دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے؟ کیا ہمیں اپنی environment protect کرنی ہے یا ہمیں اپنے لوگوں کو روٹی کھلانی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری prime mover of the resolution خود فرماتی ہیں کہ اس کا 34% production rate use in the conventional اور جو modern techniques ہیں، آپ اپنی زمین کو اس سے کم production دے رہے ہیں۔ اب میں دو conditions پر آتا ہوں، organic production دو conditions میں ہوتی ہے یا تو وہ ممالک جہاں پر کوئی modern technology available نہیں ہے یا ایسے ممالک جو economically and sufficient in the food ہیں، وہ ایسی practices کرتے ہیں کیونکہ they need a quality food. ہماری ملک کو because of shortage ہر سال گندم بھی import کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کریں کہ ہماری پنجاب میں جو arid land پڑی ہوئی ہے، ہم پہلے تو وہاں cow dung بھیجنا شروع کریں، وہاں پر کنویں بنائیں اور پھر بیلوں سے ہل چلانا شروع کر دیں، جس پر بہت وقت لگے اور اس کا بہت کم production rate ہو گا۔ کیا اس سے ہماری food کی fruitful requirement fulfill ہو سکے گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی بات ہے کہ دنیا چاند کی طرف جا رہی ہے اور ہم using the old techniques واپس اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے environment protected بنانی ہے تو پھر آپ کی economy نہیں چل سکتی کیونکہ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ environment friendly industries لگا لیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم وہ بھی نہیں لگا سکتے تو ہم اس field میں کیسے جاسکتے ہیں جیسے عمر رضا صاحب نے

بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہم اپنے seed بھی خود بناتے ہیں اور ایک کسان سات دن میں جو کام کرے گا بلکہ اس کو work force بھی زیادہ چاہیے ہو گی، اس کی cost بھی بڑھ جائے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ market کی evaluation بھی دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کی market میں دو طرح کا فروٹ دستیاب ہے، ایک جسے آپ فارمی کہتے ہیں جو forms میں produce ہوتا ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے، جس کی قیمت comparatively زیادہ ہوتی ہے، obviously یہ زیادہ nutritious ہوتا ہے، that is good for the health لیکن لوگوں کی خریدنے کی capacity کیا ہے؟ کس کی demand زیادہ ہے؟ Obviously demand اس فارمی کی زیادہ ہے because people need food not a good quality food in Pakistan particularly and this goes with the world as well because there is recession period.

Madam Speaker! Talking about the seeds, Pakistan is self-sufficient in the seeds, unless in the times when the recent crisis like the flood situation. Pakistan is develop very good quality of seeds, let me give you an example of agri pak, maxi pak, nayab and these are all world recognized seeds of cotton and rice, so there is no need. I strongly disagree with this resolution.

Madam Deputy Speaker: Ms Aum Zia.

محترمہ انم ضیاء: میڈم سپیکر! میرے بھائی نے کہا کہ یہ resolution بہت ہی بچگانہ ہے، I am sorry، وہ ابھی بچپن میں رہ رہے ہیں۔ Development کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ industrial agricultural شروع کر دیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم پچھلے method پر چلے جائیں گے تو میں backward ہو گئی ہوں۔ میرے خیال میں everyone should read the resolution again at least two or three times to get the grasp main point. When we talk about organic methods for agricultural products and we say “should also be promoted” Then I said that to increase the annual export، اس پر شروع ہو جائیں۔، پوری دنیا کر رہی ہے، انڈیا کر رہا ہے، guys what are you trying to prove? آپ لوگ یہ prove کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بیٹھ گئے ہیں۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے genetically modified seeds، it’s very good have done that، ابھی بات ہے، ابھی start تو نہیں ہوا، انہوں نے بانٹتے تو شروع نہیں کیے، چھوٹے level پر ہوئے ہیں، مجھے تو information نہیں تھی کہ ان کے گاؤں میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میں نے پوری study based analysis کیے، genetically modified seeds use کر رہے ہیں، Monsanto ایک کمپنی ہے، وہ میرے کالج لوگوں کو hire کرنے کے لیے آئی کہ آپ ہمارے لیے genetically modified seeds بنائیں جو patent seeds ہوتے ہیں۔ آپ ان seeds کو دوبارہ نہیں بنا سکتے ہیں۔

Secondly، میڈم سپیکر!، organic agriculture میں نے ایک چھوٹے سے point کے متعلق کہا، صرف seed ہی organic agriculture نہیں ہوتا اور اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ گائے استعمال کریں تو اس سے کیا ہو گا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں، اپنے آپ پر proud feel کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، there is a lot of mouths to feed، we have industrial farming، میں again I am telling you that. It is very important we industrial agriculture کو چھوڑنے کا بالکل نہیں کہہ رہی، economic have mouths to feed، but if we have land، we have land، we can at least start our exports.

development کی بات کر رہے ہیں اور واپس آ کر دوبارہ پاکستان کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کھانے کو نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ آپ economic development میں balance کیوں نہیں چاہتے ہو؟ Secondly, this was a proposition کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا ملک ترقی کرے، if you don't get it, then I am sorry.

One honourable Member: Madam Speaker! Point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

ایک معزز ممبر: میڈم سپیکر! میں معزز mover کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی exports سب سے زیادہ modified چیزوں کی ہے۔ Organic چیزوں پر export کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا disease free and quality چیزوں کی طرف جا رہی ہے، پرانی چیز جب normal method پر ہوتی ہے تو اس میں disease بھی آتے ہیں، اس میں cholesterol آتا ہے اور اس میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔
میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب عمیر نجم:

Mr. Omair Najam: Thank you Madam Speaker! I want to highlight some suggestions on the agricultural sector that organic farming is 34% less productive than the conventional farming, i.e., proved by the Rotherham Agriculture Research Centre in U.K. It has also suggested that if we use the organic approach in the fruit production sector then we can make such fruits like strawberry, which has only 11% less productivity than the conventional farming and oil seeds like soybean, which has only 3% less productivity. So, we can export these kinds of stuff to the other countries who require the organic side of farming and products.

اس میں میرا point یہ ہے کہ اگر ہم لوگ صرف اس چیز کو targeted کریں یعنی صرف اور صرف فروٹ پر تو وہ بہتر ہے۔ جہاں تک ہماری خوراک والی agriculture side ہے، جیسے گندم تو جو ہم یہاں use نہیں کر سکتے because ہماری population اور اس کی productivity کا level بہت کم ہے۔ میڈم سپیکر! ایک اور بات جیسے میرے ایک بھائی نے کہا کہ سیم و تھور کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سیم و تھور اور organic کا آپس میں کوئی link نہیں بنتا۔ شکریہ۔

Mr. Touseef Ahmed Abbasi: Madam Speaker! Point of order.

Madam Deputy Speaker: Yes.

جناب توصیف احمد عباسی: میڈم سپیکر! اس کا link بنتا ہے، ایک research survey کے مطابق اگر organic method use کیا جائے، سندھ یونیورسٹی ٹنڈو جام کے students نے یہ research کی تھی اور انہوں نے یہ method use کئے ہیں۔ اگر حکومت promote کرے تو ہزاروں ایکڑ زمین جو سمندر کی نظر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، پانی اوپر آچکا ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی cultivation نہیں ہوسکتی، اگر وہاں پر organic method use کیے جائیں تو نمکیات والا پانی نیچے چلا جائے گا اور وہ زمین دوبارہ cultivate کے قابل ہو جائے گی۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب فہد مظہر علی صاحب۔

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): شکر یہ میڈم سپیکر! ہمارا جو کام تھا وہ Blue Party خود ہی کر رہی ہے، اپوزیشن کا اپوزیشن کا کام کرنے دیا جائے۔ ابھی بات اس طرف چلی گئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ Malthus کی population growth پر ایک theory تھی جو آگے farming پر pioneer بنتی ہے اور ایک breakthrough آتا ہے، جس میں ہمیں poultry and agricultural میں mass production کی ضرورت پڑی۔ یہ ان کا بڑا timely decision تھا، ان کی timely research تھی جس نے over the years, over the centuries لوگوں کو بلکہ ہم سب کو one way or the other benefits دیے ہیں۔ میڈم سپیکر! کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو nutrition کے لیے daily intake میں ضروری ہوتی ہیں، اس level کو achieve کرنا کسی ملک کے لیے کافی اہم ہوتا ہے، آپ اس سے مآورا نہیں ہوسکتے کہ اگر ہم وہ achieve نہیں کر رہے تو import کر کے اس کو cater کر لیں گے۔ ہم کافی عرصے سے ایک agrarian based economy ہیں اور ہمیں definitely اس پر constraints بھی ہیں۔ ہماری کچھ فصلیں پاکستان کی specialty ہیں جیسے cotton, wheat جو ہمیں in different ways اپنی national demand کو بھی cater کرنے کے لیے wheat on the one side and production and export پر ہمیں cotton help کر رہی ہے۔ مطلب یہ جو nitty-gritty ہیں اور export سے receipts لینے کا یا balance of payment کو improve کرنے سے اگر ہم کاتن پر sufficient focus کریں اور اسے export کریں تو we can earn even better.

میڈم سپیکر! ایک organization SMEDA کے نام سے ہے، وہ already tunnel farming پر کام کر رہی ہے، scale different ہے، national or macro level پر نہیں ہے لیکن just to promote entrepreneurs on small level کیونکہ یہ modified products زیادہ تر urbanites use کرتے ہیں because they are using that genetically modified. ہمارے والے علاقوں میں لسی اور پیاز سے جب لوگ کھانا لیتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے کہ وہ genetically modified، کھیرے یا گاجریں کھاتے پھریں۔ افریقہ میں، صومالیہ میں acute starvation ہے، ابھی کچھ دن پہلے refugee day گزرا ہے اور انہوں نے بتایا کہ all around the world refugees ہیں تو یہ مسائل ہیں، rising food inflation ہے، آپ دوبارہ اس طریقے پر جا رہے ہیں جس پر چیزوں کی cost increase ہو رہی ہے اور کھانے میں بھی ایسی commodities ہیں جو کہ in the shape of food intake کی جاتی ہیں، آپ اس میں بھی یہ divide کر دیں کہ have and have not کی بات آ جائے تو this is not fair. جہاں تک promote up to certain level کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ organic or inorganic ان دونوں کو mix کریں اور ہمیشہ بہتر وہ چیز ہوتی ہے جب آپ mix policy استعمال کرتے ہیں۔ میں کسی بھی ایسی policy کو favour نہیں کر سکتا ہوں جو unilateral or one sided ہو اور اس کو focus کرے۔ ہمارے پاس 2/4, 3/4, 4/4 جتنے four بھی دے سکتے ہیں، policy ہونی چاہیے اور comprehensive ہونی چاہیے۔ As such on a small scale جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ targeted Karachi, Islamabad, Lahore urbanized ہیں۔ ہم اس پر export کو بہت زیادہ focus نہیں کر سکتے، میں اس پر agree نہیں کر سکتا ہوں کہ this will not sufficiently work in our case because ان ساری چیزوں کے لیے constraints ہیں اور ہم اپنے کسانوں کو اتنے زیادہ skills نہیں استعمال کروا سکتے۔ So, on small scale SMEDA is already working, I have been through some of their processes

میں انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے organic method use کر کے at the top of your roof آپ ٹمائٹر اور اس طرح کی چیزیں اگا سکتے ہیں، اس کا اس طرح استعمال تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دو وقت کے کھانے کے لیے روزانہ اسے استعمال کریں لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ environmental friendly اور یہ fundamental policy نہیں ہو سکتی۔ World East and West or North or South, there is a divide, KYOTO protocol اور اس کے علاوہ Environmental Forum ہوا تھا، اس میں بھی یہ چیز world powers سے decide نہیں ہو پارہی ہے کہ کچھ چیزیں trade-off ہیں اور ہمیشہ every decision میں اور خاص طور پر economic decision میں trade-offs exist کرتے ہیں تو until their resolution جو status quo ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور پاکستان میں اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب حفیظ اللہ وزیر صاحب۔

جناب حفیظ اللہ وزیر: شکریہ میڈم سپیکر! میں سب سے پہلے اپوزیشن کے point کی بات کروں گا کہ ہم اس فصل کو نہ export کر سکتے ہیں اور نہ دنیا ایسی فصل کو accept کرتی ہے جو organic method سے اگائی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ راولپنڈی یا لاہور میں جب کوئی سیب لیتا ہے یا آلو لیتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس پہاڑی آلو ہیں یا آپ کے پاس پہاڑی سیب ہے۔ ہم لوگ پہاڑوں میں جو آلو اگاتے ہیں، اس میں گوبر ڈالتے ہیں، وہاں کوئی fertilizer وغیرہ استعمال نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ جو فصل organic method use کرنے کے بعد ہمیں ملتی ہے، میں خود فصل اگانے میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں، اس مرتبہ میں لاہور سے وزیرستان صرف اس لیے گیا کہ وہاں گندم کی کٹائی اور تھریشر وغیرہ میں حصہ لے سکوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو فصل organic method use کرنے کے بعد ملتی ہے، وہ دوسری فصل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے تیرہ کنال زمین میں گندم اگائی اور ہمیں تقریباً چالیس بوری کے قریب گندم ملی جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کنال پر ایک بوری ملتی ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب حسن اشرف صاحب۔

جناب حسن اشرف: میڈم سپیکر! پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بنچوں سے اعتراض آیا ہے کہ organic food کی وجہ سے ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ آخری صدی میں دنیا میں organic food کی demand increase ہو گئی ہے اور inorganic food کی demand بہت کم ہو گئی ہے۔ میرے اپنے personal experience کی بات بتاتا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا تھا، وہاں ایک organic food stall ہوتا تھا اور ایک inorganic food کا بھی stall ہوتا تھا، اگر inorganic food one pound کا ہے تو organic food three pounds کا ہوتا تھا اور جب تک میں سو کر اٹھتا تھا اور مارکیٹ تک جاتا تھا تو اس وقت organic food ختم ہو جاتا تھا صرف inorganic food بچ جاتا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں آخری دس سالوں میں organic food کی demand کتنی increase ہو گئی ہے۔

میڈم سپیکر! اب ایک اور study آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ inorganic food promotes cancer. لوگ اب کہتے ہیں کہ تم لوگ غریبوں کو کیا کھاؤ گے، organic food تو کم پیدا ہوتا ہے، اب اگر غریب بھوکا ہے تو اس کو ایسا کھانا دیا جائے جس سے کینسر ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے قیمتوں کی بتائی، قیمتوں میں

three times difference ہے۔ لوگ یہاں revenue کی بات کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری major export inorganic food ہے۔ اگر آپ inorganic food جس کی demand کم ہو گئی ہے تو ہماری export بھی وقت کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ Organic food جس کی demand increase ہو گئی ہے، جس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے تو اگر ہم آج سے ہی اس پر کام شروع کر دیں جیسے انم ضیاء صاحبہ نے کہا کہ “this House is of the opinion that organic method for agricultural production should also be promoted” شروع کریں تو کل جا کر ہم foreign demand کو met کریں گے، کل جا کر ہمارے revenue increase ہو گا۔ جہاں ہم inorganic food سے ایک روپیہ کماتے تھے، وہاں ہم organic food سے تین روپے کمائیں گے۔ ہماری پارٹی اس resolution کی پوری support کرتی ہے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب وزیراعظم صاحب۔

جناب محمد ہاشم عظیم (وزیراعظم یوتھ پارلیمنٹ): شکریہ جناب سپیکر! اس پر بہت debate ہو گئی ہے اور ہمیں organic production پر تھوڑا سا disagreement بھی سننے کو ملا اور میرے بہت معزز اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن کا کام Blue Party کر رہی ہے، اس طرح کا disagreement بھی آیا۔ میں ایوان کو بتانا چاہوں کہ میں ایک progressive party کا leader ہوں، میری پارٹی liberal ہے اور ایک liberal party وہ نہیں ہوتی جو اپنے اراکین کو limit کرتی ہے، strict کرتی ہے بلکہ ان کا mind open کرتی ہے، انہیں freedom of speech دیتی ہے۔

(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)

جناب محمد ہاشم عظیم: یہی disagreement, discourse finally ایک constructive and substantial policy بنانے میں مفید اور practical ہوتا ہے۔ میڈم سپیکر! اس resolution کا متن جیسے انم ضیاء صاحبہ نے اپنی دوسری تقریر میں بہت clearly organic, inorganic or industrial agricultural میں بہت جاؤں گا۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ “Agricultural production should also be promoted” اگر یہ صرف “should be promoted” ہوتا تو پھر بھی slightly different ہوتا but should also be promoted کا مطلب یہ ہے کہ besides all industrial production, besides all the skills prevailing in Pakistan, besides all the currently things being deployed, اس کے علاوہ should also be promoted, تو چھوٹے sector میں جس طرح سیالکوٹ، نارووال، گوجرانولہ چاول کے sectors ہیں، اوکاڑہ میں آلو کا sector ہے، Initially ایک small scale پر to promote this thing. ہم اس کو بالکل تھوڑے probationary period کے لیے کریں، اس کی cost and benefit analysis اور اچھی طرح practically check کریں اور پھر اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ cost and benefit suitable ہے تو پھر اس کو enhance کریں اور اس کو زیادہ promote کریں۔ یہ should also be promoted ہے اور I think this resolution should be adopted and we are in favour of that. Thank you.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی فہد مظہر علی صاحب۔

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): میڈم سپیکر! یہاں ہم نے کہا کہ opportunity does exist کرتی ہے لیکن یہ اپنی بات کو خود ہی recognize کر رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کھانے کی چیزوں

کو یا اس طرح کی essential commodities کو at least آپ کی جو majority base ہے اس سے دور نہ لے کر جائیں۔ آپ تو ان لوگوں کو customize کرتے ہیں، I am witness of that tags ہوتے ہیں کہ this bag of rice natural river water سے watered ہوا ہے۔ دوسرے bag پر tag لگا ہوا تھا کہ this is from the well water، جسے ٹیوب ویل سے نکالا گیا ہے۔ ان ساروں کی prices میں بھی فرق تھا، ان میں price discrimination تھی اور یہ دبئی میں فروخت ہو رہی تھیں۔ ان لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، they are very establish of using As this is not a policy۔ customize پوری دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ reality stand کہ ہم جس پر ان کی اپوزیشن کریں یا بات کریں، we have just put forward کہ جو ایک بات ہے، ہے یا fact base جو بات ہے۔

میڈم سپیکر! اس پر دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، matter کرتی ہیں، جب آپ کی کوئی agriculture product ہوتی ہے، international standards یہ ہیں کہ وہ must hygiene meet کرے۔ انگلینڈ میں خاص طور پر ہمارے آموں کی export ہوتی ہے اور میں نے ایک مرتبہ حادثاتی طور پر U.K. mango export کرنے کی کوشش کی تھی، ہمارا at graduation level ایک project تھا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ they have given us a detailed description کہ آپ کے Am کی length کتنی ہونی چاہیے، وہ ڈایا میٹر میں کتنا ہونا چاہیے، آپ نے Am کے کیا hygiene measures کرنے ہیں، ان کی packaging کیسے کرنی ہے، this is something else، یہ trade base decisions ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ SMEDA is already working on that، انہوں نے projects کیے ہوئے ہیں، even they given us a consultancy as well اور یہ انہوں نے ہمیں free of cost دی ہے لیکن کتنا scale ہے؟ کتنے آدمی ایسے ہیں جو یہ چیز adopt کرتے ہیں؟ آپ نے وزیرستان کی بات کی how many people in Waziristan can cater on using organic method؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی policy shift آتی ہے، fundamental drive ہے۔ مقامی کی بات چل رہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب دیسی مرغی کے کھانے اور فارمی مرغی کے کھانے میں کیا فرق ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ ہم بھی کوئی خلا سے اتر کر نہیں آئے، میں اپنی اس بات پر معذرت کرتا ہوں کہ Blue Party خود ہی اپوزیشن کر رہی ہے، ہمیں ایسا لگا۔ ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں، سماعت بھی ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں، it was like that and in our country acute water shortage، surplus production ہے، سیلاب کی وجہ سے بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس cater ہونی چاہیے، ہمارے پاس sufficient place ہونی چاہیے جہاں ہم contingencies and natural calamity میں promote کر سکیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے draft میں انہوں نے promote لکھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہ پہلے سے promote ہو رہا ہے، Government of Punjab، SMEDA is already working on it۔ initiatives لیے ہوئے ہیں اور back to nature ویسے کل تو کلاچوی صاحب ہمیں لے کر جانا چاہتے تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پنکھوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ and it was informal آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں۔ شکر یہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ احمد نمیر فاروق صاحب۔

جناب احمد نمیر فاروق: میڈم سپیکر! میں ایک amendment propose کرنا چاہ رہا ہوں کہ

“this House is of the opinion that organic methods for agriculture production should be promoted in Pakistan on currently uncultivated land through technical awareness and financial assistance in order to increase the annual export of agriculture products”.

Madam Deputy Speaker: O.K. Ms Anum Zia! do you agree with this amendment or you should read out again?

Ms Anum Zia: O.K. I don't mind.

Madam Deputy Speaker: O.K. Now I put the resolution to the House.

(The motion was carried)

Item No. 6

RESOLUTION

Madam Deputy Speaker: Now item No. 6 of Mr. Muhammad Taimoor Shah and Ms Mehreen Syeda. I would request to Mr. Muhammad Taimoor Shah to kindly move the resolution.

Mr. Muhammad Taimoor Shah: Thank you Madam Speaker!

“This House is of the opinion that the levies network should be extended to the Tax evaders and that the taxation laws should be amended to fight Tax immunities”.

میڈم سپیکر! میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ جو tax network ہے، جو لوگ، کمپنیاں اور industries ٹیکس دیتی ہیں، اس میں levies کا جو network ہے، اس کو tax evaders تک extend کرنا چاہیے۔ and that the taxation laws should be amended to fight tax immunities. جو لوگ tax immunities and exemption حاصل کر لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے صنعتکار بھی tax immunities حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ tax laws کے اندر ہی tax immunities حاصل کر لیتے ہیں۔ The role of solicitors, the role of lawyers is very influential and crucial in determining these tax exemptions and tax immunities. ایک simple example دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ بنک سے قرضہ لیتے ہیں، اس بنک کے قرضے پر ٹیکس نہیں ہوتا، مثال کے طور پر اگر ایک کروڑ میں کوئی انڈسٹری لگتی ہے اور میرے پاس اس کے لیے پیسے ہیں، میرے پاس ساری investment پڑی ہوئی ہے لیکن میں tax evasion کے لیے tax immunity ایسے حاصل کر لیتا ہوں کہ میں بنک سے loan لے لیتا ہوں اور بنک کو قرض پر 12% interest دینا ہوتا ہے، اگر آپ اس industry میں اپنے پیسے invest کریں اور اپنی income invest کریں تو اس پر حکومت 20% tax charge کرتی ہے۔ ایک industrialist یہ سوچتا ہے کہ میں حکومت کو 20% دینے کے بجائے بنک کو کیوں نہ 12% دے دوں اور میرا اپنا سرمایہ بھی میرے پاس رہے گا۔ یہ ایک basic چیز ہے جو بڑے بڑے صنعتکار ہیں، وہ اس طرح tax immunities حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنی investment بہت تھوڑی رکھتے ہیں، وہ بنک کے قرضے سے ہی کاروبار کرتے ہیں اور حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، ان کا جو پیسہ circulate ہو رہا ہوتا ہے، اس پر تو ویسے ہی ٹیکس نہیں ہوتا کیونکہ وہ bank statements دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے loan لیا ہوا ہے اور اس پر تو ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، this is basically a flaw in the taxation laws and the State Bank should regulate it کہ ایسے صنعتکار جن کے پاس اپنی investment بھی ہو لیکن وہ پھر بھی بنک کے پیسے سے

کاروبار کر رہے ہوں اور FBR نے جو tax slabs بنائیں ہیں کہ اگر کسی کی سالانہ آمدنی چار لاکھ روپے تک ہے، that is the first slab of this tax exemption، ان چار لاکھ روپوں تک کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ The second slab goes from 4 lac to 7/5 lac، اس میں 5% ہے۔ اسی طرح ان slabs کے grades بڑھتے جاتے ہیں، ساڑھے سات لاکھ روپے سے پندرہ لاکھ روپے تک 3rd slab ہے اور پندرہ لاکھ سے onward کے لیے 4th slab ہے۔ یہ ٹیکس onward اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنی income بڑھتی جاتی ہے تو اسی حساب سے لوگ tax evasion کر لیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا صنعتکار کسی NGO میں پیسہ لگا دیتا ہے اور کچھ tax immunities جو tax laws ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہیں۔ اس لیے State Bank and taxation laws کو amend کیا جائے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترمہ مہرین سیدہ صاحبہ۔

محترمہ مہرین سیدہ: شکریہ میڈم سپیکر! کل بھی taxes پر کافی بات ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ہمارے topic ہی ایسے ہیں، اس لیے repeatedly ایسی چیزیں آئیں گی۔ میں ایک بات add کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے ایک مرتبہ الیکشن پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم الیکشن کو شفاف بنانے کے عمل کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ووٹروں کو کیسے لانا ہے، وہاں ووٹ کیسے count ہونے ہیں، آپ اس سارے process کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن وہ آدمی جو وہاں بیٹھا ہے اور اپنا ووٹ cast کر رہا ہے اگر اسی کے پاس سے ہمارا کام خراب ہو جائے کہ وہ آدمی کوئی گڑ بڑ کر دیتا ہے تو ہمارا سارا process zero سے multiply ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح taxation system میں بھی میں ایک step آگے آ کر بات کروں گی کہ ٹھیک ہے آپ نے collect بھی کر لیا، آپ نے policies بھی بنا لیں لیکن اس کے بعد جہاں ہمارے taxes collect ہو کر آتے ہیں وہاں کے لیے بھی ہمیں کچھ advance steps لینے چاہیں۔ میں یہاں National Accountability Bureau، even Lahore Development Authority کی مثال دوں گی، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، یہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ revenue generate ہوتا ہے، یہاں ایسا کوئی system موجود نہیں ہے جس کے تحت اس کی transparency کو یقینی بنایا جا سکے۔ ابھی تک ہمارے سرکاری اداروں میں فائلوں کے ذریعے کام کیا جاتا ہے اور فائلوں میں جس طرح گھپلا ہوتا ہے، اسے روکنا آسان کام نہیں ہے۔ میں Standing Committee on Information Technology میں ہوں، وہاں میں نے Enterprise Resource Planning (ERP) and CNNS System پر ایک detailed report بنائی ہے، اگر آپ ان two systems کو introduce کرائیں، انہیں لے آئیں تو یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ 100% نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی ہم بہت اچھے طریقے سے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ یہاں tax collect کرنے کے بعد اس کو صحیح جگہ utilize کرنے میں جو gap ہے، وہاں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں نے جو رپورٹ بنائی ہے اور اپنی کمیٹی کو دی، وہ میں یہاں پر ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم عمر ریاض صاحب۔

Mr. Muhammad Umar Riaz: Thank you very much. I would like to state it firmly that the tax collection mechanism as it has already been stated in the previous debates, last day we also discuss the matter that the need of the hour is to ensure transparency in each and every sector of our state machinery, whether it is private one or the public one. Now we pointed out that the National Accountability Bureau

and the other related institutions are suffering from a lack of accountability. As the movers of the resolution stated that the need is to deal with the income tax immunities. Now this immunities should not be provided to anyone, when we talk about bank loans, the bank loans that how the industrialists, that how the businessmen, the business tycoons play with the bank loans and the taxation laws and how the Income Tax Ordinance is need to be amended quite seriously? This is something which should be debated quite seriously. As we have also discuss it yesterday that the tax evade is a matter of serious concern for all of us. The tax evasion is something which should be dealt and for that Income Tax Ordinance will have to be amended, what amendment should be proposed that needs of any effective legislation and we will definitely looking forward to introducing some piece of legislation in the coming days on that.

Madam Speaker! Furthermore, we also believe that to ensure transparency within the public and the private sector to avoid tax evasion within the sectors of the society. We need to come up with a very firm piece of legislation in sort of these resolutions and motions. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Mr. Najeeb Abid Baloch *Sahib*.

جناب نجیب عابد بلوچ: شکریہ میڈم سپیکر! کل بھی tax authorities and tax collection پر کافی بات ہوئی۔ میں as a member of Standing Committee on Finance ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ Standing Committee on Finance نے tax reforms پر کافی کام کیا ہے۔ جب tax net بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اور tax evasion کی تو اس حوالے سے Standing Committee on Finance retail sector کو Income Tax Ordinance میں جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے impose کرنے کے لیے ایک mechanism بنانے پر غور کر رہی ہے، یہ چیز ابھی کمیٹی میں under discussion ہے۔ Likewise, agenda No. 12, wealth tax is being proposed in the House ہم ایک Bill لے کر آ رہے ہیں، وہ tax net بڑھانے کے لیے ہے اور income from property rental income پر جو ٹیکس لگتا ہے، اس پر ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے resolution پیش کی ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ Standing Committee on Finance نے جو report بنائی ہے، اسے ایک نظر پڑھ لیں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب محمد وقار صاحب۔

جناب محمد وقار: میڈم سپیکر! میں اس resolution پر صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ vague resolution لگ رہا ہے۔ اگر movers کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی tax evasion ہو رہی ہے تو ان immunities کو یہاں clearly mention کرنا چاہیے اور انہیں abolish کرنا چاہیے، otherwise یہ کافی confusing ہے۔ میں اس لیے یہ demand کرتا ہوں کہ اس resolution کو کمیٹی کو refer کر دینا چاہیے تاکہ اس پر further homework کر کے پھر یہ resolution House میں آئے۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محمد عتیق صاحب۔

جناب محمد عتیق: میڈم سپیکر! میں اس میں دو تین چیزیں clear کرنا چاہتا ہوں، جس طرح یہاں tax evasion and levies network کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ practices میرے اپنے experience میں آئی تھیں کہ میرے کچھ fellows نے Foundation, Trust and NGO کی مد میں کچھ business start کیا، اب ان تینوں پر

کیونکہ directly tax نہیں پڑتا۔ اس طرح میڈیکل کے equipments باہر سے منگوانے تھے تو بہت سارے لوگوں کے ہسپتالوں کی جو practices ہیں، اس میں یہ لوگ Trust, NGO and Foundation کی مد میں business لے کر آتے ہیں اور انہیں tax میں چھوٹ ملتی ہے۔ یہاں taxation laws پر کام کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس پر directly impose کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے ہم taxation کو implement کر سکیں۔ اب ہمارے ملک یہ تین چیزیں ایسی practice میں موجود ہیں جن میں laws regular and strengthen کرنا ہے کہ اگر آپ Trust کے ذریعے کوئی چیز منگواتے ہیں تو ٹیکس کی مد سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح Foundation and NGOs ہیں، ان پر taxation کی ضرورت ہے۔ ہم اس طرح کافی tax revenue بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: جناب کاشف یوسف بدر صاحب۔

جناب کاشف یوسف بدر: شکریہ میڈم سپیکر! یہاں tax evasion کی بات ہو رہی ہے، تیمور صاحب نے بنکوں کا ذکر کیا کیونکہ میں ایک financial institution میں کام کر رہا ہوں۔ میں ان کی بات سے agree کروں گا کہ پاکستان میں بنک tax evasion کا بہت بڑا source ہیں اور بنکوں کے loans اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گا کہ کسی exporter or businessman کے پاس دس ملین کی رقم ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا کہ مجھے میری پراپرٹی کے against loan دیا جائے۔ وہ قرض لے گا، کاروبار کرے گا نہیں، اس کے پاس already ten million ہو گا، وہ وہی بنک میں جمع کروائے گا، ہمارا Kibor rate 12.5% پر چل رہا ہے، وہ 12% پر ہم سے منافع لے گا اور اس نے اپنی آمدنی پر جو 14 or 15% income tax دینا ہے، جو اس نے business run کر کے دینا تھا، وہ صرف اور صرف 1% رہ جائے گا، اس طرح وہ تقریباً 10 to 11% tax per annum چوری کر رہا ہے۔ اس tax evasion کا دوسرا بڑا ذریعہ بنک بنے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت نے اس کو بہت support کیا ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف کے دور میں یہ شروع ہوا تھا foreign remittances کی صورت میں، اس کو عام فہم میں بنکوں میں کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی لگوانا، کسی نے پراپرٹی خریدنی ہے تو وہ بنک میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ٹی ٹی لگوانی ہے، اس میں through money exchanger ایک اکاؤنٹ کھلنا ہے، ٹی ٹی لگتی ہے اور دبئی سے پیسے سیدھے پاکستان آتے ہیں، اس کا ایک ڈالر پر ایک روپیہ rate ہوتا ہے، اس طرح اگر کوئی ایک کروڑ منگواتا ہے تو وہ دس ہزار روپے دے کر اپنا لاکھوں کا ٹیکس بچا لیتا ہے۔ میں اتنی بات ہی کہنا چاہتا تھا۔ شکریہ۔

میڈم ڈپٹی سپیکر: محترم جناب فہد مظہر علی صاحب۔

جناب فہد مظہر علی (قائد حزب اختلاف): شکریہ میڈم سپیکر! اس اجلاس کے کافی دلچسپ topics ہیں، ابھی ہم نے human rights پر قدم نہیں رکھا لیکن economic reforms and budgetary معاملات کو ہم ریڈر کی طرح اچھے طریقے سے کھینچ لیتے ہیں۔ میڈم سپیکر! یہاں taxation پر بات ہوئی، tax pay کرنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں، tax paid at source or collected at source، جہاں سے transaction emerge ہوتی ہے، آپ وہاں پر فوراً ٹیکس دے سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو receipt مل جاتی ہے۔ میں نے explain کر دیا تھا کہ there are number of ways through which taxes evade کیے جاتے ہیں۔ Embezzlement and manipulation اتنا state forwardly نہیں کہنا چاہیے but finance managers or chartered accountants, they are

very good at this, they have many ways والے حضرات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے miscellaneous account ہوتا ہے، اسے کھو کھاتے کا account کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا documented support نہیں ہے تو آپ اسے miscellaneous میں ڈال کر اور اس کا ایک proper process ہوتا ہے جس میں آپ ان کے audit میں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں دیکھ سکتے۔

میڈم سپیکر! دوسری بات یہ ہے کہ over the year tax returns ہوتی ہیں، taxation authority اس کو define کرتی ہے، deadline دے دیتے ہیں کہ کوئی organization ہے، کوئی individual ہے، کوئی group of companies یا کوئی ایسی پارٹی یعنی anybody involved جس نے ٹیکس دینا ہے، جن پر tax due ہے تو ان میں دو concepts آتے ہیں، ایک تو tax rebate ہوتا ہے اور دوسرا اگر کم ٹیکس ادا کیا ہے اور اس کی calculation میں زیادہ بنتا ہے تو یہ structural problems ہیں۔ اس میں over the years کیا ہوتا ہے کہ اس میں outstanding amounts both the parties accumulate ہوتی رہتی ہے، اس میں جو pay کرنے والا ہے اور جو collect کرنے والے ہیں، ان دونوں میں یہ problems exist کرتے ہیں۔ Lucky Cement کا ایک بہت مشہور case ہے، جس میں 800 million rupees 1997 سے لے کر آج تک outstanding amount میں یا collectable میں اپنی financial show کرتے ہوئے آرہے ہیں حالانکہ اس چیز کو finance term میں window dressing کہتے ہیں کہ over the years 12, 13 years ہو گئے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ to extent 90% they are uncollectible اور State Bank of Pakistan and different organizations کے درمیان 1947 سے لے کر آج تک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو outstanding ہیں یا اس طرح کے dues ہیں، وہ اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو tax reforms, this is need of hour. Ground breaking and structure revamp کرنا پڑے گا۔ Minister for Law نے ابھی بات کی کہ وہ اس پر بھی legislation لے کر آرہے ہیں اور ہم نے بھی کوشش کی ہے، پارٹی کی طرف سے ایک ٹنگ و دو تھی کہ کچھ ایسی opportunities کو explore کیا جائے جن کے ذریعے ہمارا system جو stagnant and downtrodden ہے جو اتنا pathetic and lethargic ہے کہ وہ welfare کو deliver نہیں کر پارہا، collection میں مسئلہ ہے، base کا بھی problem ہے۔ اس میں net میں جو چیزیں ہیں ہم نے پہلے with the passage of time government officers کے perks and privileges کے حساب سے دیکھا، وہ tax evasion کر رہے ہیں، ہمیں ابھی کچھ بنکوں کا پتا چلا کہ وہاں پر کیا hidden ways ہیں جہاں سے آپ tax evade کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ different channels ہیں تو جب اس پر discussion ہو گا، consensus develop ہو گی تو in the end, we will be able to highlight these issues، جگہیں ہیں جہاں سے problem ہو رہی ہے۔ So, this is outcome of this healthy debate. Thank you.

Madam Deputy Speaker: Thank you. The honourable Prime Minister Sahib.

جناب محمد ہاشم عظیم: میڈم سپیکر! کل بھی almost similar topic tax laws and tax evasion پر بات ہوتی رہی، tax evasion پر وزیر خزانہ اور میں نے بھی کچھ reforms دی تھیں کہ registration of Small and Medium Enterprises جس میں chunk small 24.5% کی ہے، medium 26.5% کی ہے، according to a report by Syed Maratib Hussain, which I quoted yesterday also. ابھی 51% chunk ہے تو اگر اسے register کیا جائے

گا تو اور chunk میں آئے گا، ہم tax evasion اور اس طرح کی چیزوں کو minimize کر سکیں گے لیکن اس کا جو دوسرا tax laws already “laws should be amended” sentence ہیں، implementation میں کافی مسئلہ ہے، almost بات similar ہے، ٹھیک ہے I think it would be much more constructive جو ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے، اس میں اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں، اسے بھیج دیا جائے تاکہ اس پر further concrete and specific بات آسکے کہ ہم نے اس میں کیا چیز adopt کرنی ہے۔ شکر یہ۔

Madam Deputy Speaker: You have any problem with the content of this

کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ مسئلہ ہے، like if they any amendment would like to propose? جناب محمد ہاشم عظیم: جناب والا! کیا amendment کرنی ہے، basically tax laws and implementation میں جو فرق ہے، وہ چیز کمیٹی propose کرے گی۔

جناب فہد مظہر علی: آپ phrase میں بتا دیں کہ اس میں جو چیز add کرنی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔

Madam Deputy Speaker: Mr. Taimoor! Is there any amendment?

جناب محمد تیمور شاہ: میڈم سپیکر! I don't know, اس کی تو انگریزی بھی simple سی ہے۔ جناب احمد نمبر فاروق: میڈم سپیکر! اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ taxation laws should be amended. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو amendments ہیں، وہ Committee propose کر لے، کمیٹی انہیں study کرے کہ taxation laws میں کیا weaknesses ہیں؟ وہ اس کے مطابق ان کی amendment propose کرے کیونکہ tax reforms پر already Committee میں کام ہو چکا ہے اور ایک Bill بھی آنے والا ہے۔ جناب فہد مظہر علی: میڈم سپیکر! ہم چاہتے ہیں کہ amendment آئے، اگر یہ لے کر آرہے ہیں، then nothing is bad in that, this is just a resolution, agree کر رہے ہیں کہ اس میں قانون لا رہے ہیں اور یہ business 5th June سے ہے تو یہ replication آتی رہے گی اور میرے خیال میں اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، this is already perfect.

جناب محمد تیمور شاہ: جناب والا! مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے amendment کی بات کی ہے کہ Standing Committee ہی amend کرے گی، ہم نے یہ نہیں کہا Rules of Procedure میں بھی یہی لکھا ہے کہ Committee ہی amend کرتی ہے لیکن یہ resolution پڑھ لیں اور اگر آپ اس resolution کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایوان کہہ رہا ہے کہ amend کر لیں، یہ تو نہیں کہا کہ ایوان ہی amend کرے، once it has adopted then obviously go to the Committee for recommendations.

میڈم ڈپٹی سپیکر: جی محمد ہاشم عظیم صاحب۔

جناب محمد ہاشم عظیم: میڈم سپیکر! میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل جو opinion ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، Standing Committee جو amendments ہیں، جو اس کے further action کرنے کے لیے، اس میں بات clear ہے۔۔۔

Madam Deputy Speaker: Now I put the resolution to the House;

“that this House is of the opinion that the levies network should be extended to the Tax evaders and that the taxation laws should be amended to fight Tax immunities”.

(The motion was carried)

میڈم ٹیپٹی سپیکر: ہماری جو standing Committee ہے، we are waiting کہ آپ لوگ اس ایوان میں

The House is adjourned for lunch. We will meet at 1500 hrs *Insha Allah*. - کچہ amendments propose کریں۔

Thank you.

(The House was then adjourned to meet again at 1500 hrs)
